

مغرب میں دعوتِ اسلام--- ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی کاؤشوں کا ایک جائزہ

محمد ارشد ☆

اسلام اور مغرب کے تعلقات کی تاریخ باہمی تصادم، کشمکش، رقبت اور نفرت و بدگانی سے عبارت ہے۔ ان دونوں کے مابین روابط کا آغاز میدان جنگ میں ہوا۔ پہلی صدی ہجری میں مسلم افواج کے ہاتھوں شام اور مصر کی مسیحی اقوام کو ہزیرت اٹھانا پڑی تھی۔ مشرق میں مسلم افواج کے ہاتھوں سلطنت روم (بازنطینی سلطنت) کا خاتمه بعد ازاں ہسپانیہ میں مسیحی اقوام کی پے در پے شکستوں نے عالم مسیحیت کے دلوں میں اسلام اور مسلم دشمنی کے شیج بوجے۔ مسیحی دینی قیادت نے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ نفرت و حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور مقدس مذہبی فریضہ کے طور پر مسیحیت کے پیروکاروں میں ان دونوں کے بارے میں دشمنی کے جذبات کو خوب پروان چڑھایا۔ جس کا نتیجہ طویل محاربات صلیبی کی صورت میں نکلا۔ صلیبی جنگوں میں یورپ کی متعدد مسیحی قوت کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں شدید زک پہنچی۔ مالjud دور میں عثمانی ترکوں کے ہاتھوں مشرقی یورپ کی مسیحی اقوام کو ہزیرت اٹھانا پڑی۔ اسلام اور مغرب کے درمیان صدیوں پر محیط اس کشمکش نے مؤخر الذکر (مغرب) کی نفیسات پر عمیق اثرات مرتب کیے۔ اسلام اور مسلم دشمنی تو گویا اس کے رگ دریشہ میں رچ بس گئی^(۱)۔ مسیحی مذہبی قیادت نے جذبہ اسلام دشمنی کو زندہ و بیدار رکھا۔ اس نے پیروایان مسیح کے سامنے اسلام کی صورت کو خوب منع کر کے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو انتہائی کریمہ اور لائق نفرت بنا کر پیش کیا^(۲)۔ بالآخر یہ چیز مغربی دنیا میں "اسلام" کی تبلیغ و اشاعت کی راہ میں سنگ گراں ثابت ہوئی۔

تاہم ملت اسلامیہ کی تاریخ کا یہ ایک انتہائی دخراش بلکہ سید ابو الحسن علی ندوی کے بقول، انتہائی شرمناک واقعہ ہے کہ مسلم اقوام نے مسیحی دنیا کو عسکری و سیاسی میدان میں ٹکست دے کر اس کے بہت سے علاقوں کو تو اپنی قلمروں میں شامل کر لیا اور وہاں (باخصوص اپیں میں) اسلامی تہذیب و تمدن کے گھرے نقوش بھی ثبت کیے۔ تاہم وہ حریف اقوام میں دین اسلام کی توسعہ و اشاعت کی طرف

سے غفلت اور شدید کوتاہی کی مرتكب ہوئیں۔ مسلم حکومتوں اور مبلغین و دعاۃ دونوں نے اسلام کے پیغام کو یورپ کے قلب و جگہ میں داخل کرنے کی کوئی مؤثر کوشش ہی نہیں کی (۳)۔

مغرب اور اسلام کا جدید دور میں وسیع پیمانے پر رابطہ انسیوں صدی عیسوی میں ہوا۔ تازہ دم و پر عزم، سائنسی علوم و فنون اور جدید سامان حرب سے لیس مغرب، زوال و انحطاط سے دوچار عالم اسلام پر چڑھ دوڑا اور بڑی سرعت سے اس کے کثیر ممالک پر تسلط جما لیا۔ قوت و طاقت کے نشے سے سرشار مغرب نے ملکوں و مفتوج مسلم اقوام کی نسل کشی کے ساتھ ساتھ اسلامی تہذیب و معاشرت کا تاریخ پود بکھیرنے کا پورا پورا اہتمام کیا۔ مسلم ممالک میں وسیع پیمانے پر دین مسیحیت کی توسعہ و اشتاعت کا بیڑا بھی اٹھایا گیا (۴)۔

نوآبادیاتی دور میں بعض سیاسی اغراض سے مغرب میں اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت اور ان کی سماجی اقدار کے بارے میں تحقیق و مطالعہ کی تحریک "استشراق" کا آغاز ہوا۔ مستشرقین نے اسلام اور مسلمانوں کا مطالعہ غیر جانبدارانہ طور اور خالص علمی انداز میں کرنے (شاید اس صورت میں الہ مغرب حق و صداقت کی بازیافت میں کامیاب ہو جاتے) کے بجائے حقائق کو خوب مسخ کر کے پیش کیا۔ اسلام کو ایک دشمنی غیر مہذب و غیر متدن قوم کے مذہب کے طور پر پیش کیا گیا۔ جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ناشاکستہ اور گھٹشا الزمات و انتہامات کا نشانہ بنایا گیا۔ اسلامی شعائر و اقدار کی خوب تنقیص کی گئی (۵)۔ یوں مستشرقین کا مطالعہ اسلام مغرب میں "دعوت و تبلیغ اسلام" میں مدد و معاون ہونے کے بجائے خود اس کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بن گیا۔ اس پر مستزاد یہ کہ ان کی تحقیقات و تصنیفات مغرب کے زیر اثر مسلمان معاشروں کے اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقات کو "اسلام" کی ابدیت و حقانیت کے بارے میں شک و شبهہ میں بنتلا کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ بن گئیں (۶)۔

نوآبادیاتی دور میں مسلم معاشروں کی دینی قیادت (علماء و صوفیاء) کی تمام تر قوت خارجی اثرات یعنی مغربی تہذیب و تمدن، افکار و نظریات اور مسیکی مشنریوں کی بیانار کے مقابلہ میں موروثی مسلمانوں کے دین و عقیدہ اسلامی علوم و فنون اور تہذیب و معاشرت کے تحفظ و بقاء کی کوششوں میں صرف ہونے لگی تھی۔ علماء و صوفیاء نے دینی علوم کی تعلیم و تدریس اور روحانی تربیت جیسے وظائف کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ جارح مغربی استعماری طاقتوں کے خلاف علم جہاد بھی بلند کر رکھا تھا (۷)۔ یوں اس دور میں مغرب کی فاتح و حاکم اقوام کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کرنے کا کام اکثر و پیشتر

نگاہوں سے اچھل رہا۔ البتہ بعض جدید تعلیم یافتہ مسلمان دانش وردوں کی طرف سے اہل مغرب کو ”اسلام“ سے متعارف کرنے کی جو کوششیں ہوئیں وہ انہیں اسلام کی طرف مائل و راغب کرنے میں کچھ موثر ثابت نہ ہو سکیں^(۸)۔

انیسویں صدی کے ربع آخر سے مغرب میں دعوت و تبلیغ اسلام کے بڑے وسیع امکانات پیدا ہوئے۔ مشیت اللہی سے مغربی اقوام کی مسلم نواز آبادیات الجزایر، مراکش، تیونس، موریتانیہ، بر صغیر پاک و ہند، جنوب شرقی ایشیا کے مسلمان ممالک اور دنیائے عرب سے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جدید مغربی تعلیم کے حصول یا پھر روزگار کی تلاش اور کاروبار کے سلسلہ میں مغربی ممالک میں پہنچنے لگے۔ بیسویں صدی کے اختتام تک مغرب میں جا کر آباد ہونے والے ان مسلمان افراد کی تعداد کمی ملین کو جا پہنچی۔ برطانیہ، فرانس، پرتگال، جرمنی، کینیڈا اور ریاست ہائے متحده امریکہ کے مختلف شہروں میں تو متعدد چھوٹی چھوٹی مسلمان آبادیاں وجود میں آگئیں۔ مغربی ممالک میں مسلم آبادی کی موجودگی سے بجا طور پر یہ توقع کی جاسکتی تھی کہ وہ اہل مغرب کے سامنے ”دعوت اسلام“، موثر طور پر پیش کرے گی اور اسلامی اخلاق و کردار اور طرز زندگی (معاشرت) کا نمونہ پیش کر کے مغرب کے سنجیدہ طبقات کو ”اسلام“ کی طرف مائل کرنے میں موثر کردار ادا کرے گی۔ یوں وہ مغرب میں دعوت اسلام کے سلسلہ میں امت کی گزشتہ کوتاہیوں کا ازالہ کر سکے گی۔

بلاشبہ گزشتہ صدی کے دوران (بالخصوص بیسویں صدی کے نصف آخر میں) مغربی ممالک میں مسلم آبادی کی دینی سرگرمیوں میں اضافہ اور بہتری ہوئی ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں مساجد تعمیر ہوئی ہیں۔ اسلامی مراکز اور دینی مدارس کے علاوہ مسلم اسکول قائم ہوئے ہیں۔ متعدد اسلامی اشاعتی ادارے وجود میں آئے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے میدان میں متعدد اسلامی تظییں بھی سرگرم عمل رہی ہیں اور ان سب کے نتیجے میں ”اسلام کی اشاعت و توسعہ“ کے عمل کو قدرے تقویت پہنچی ہے۔ چنانچہ ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں^(۹)۔ تاہم اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ مغرب میں ”اشاعت اسلام“ کے عمل میں تاحال کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ اس کا بنیادی سبب ان ممالک میں ایسی مسلم دینی قیادت بالفاظ دیگر ایسے علماء اور مبلغین و دعاۃ کا فقدان رہا ہے جو ایک طرف دین میں گہرا رسوخ رکھتے ہوں دوسرا طرف مغربی تہذیب و معاشرت کے نقص اور اس کے پیدا کردہ مسائل (اخلاقی، روحانی، نفیسی و سماجی) کا صحیح اور اک رکھتے ہوں۔ اہل مغرب کی ہنی و فکری ساخت اور ان کی مذہبی نفیات سے آگاہ ہوں۔ اس کے علاوہ مغربی زبانوں میں اعلیٰ درجے کی مہارت رکھتے ہوں اور مغرب کے اسلوب تحریر و تقریر سے واقف ہوں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ

عملی زندگی میں اسلامی اخلاق و سیرت اور طرز معاشرت کا نمونہ پیش کرتے ہوں۔ مزید برا آں یہ علماء و مبلغین مسلکی اور گروہی تقصیبات سے بالاتر ہو کر آفاقتی ”اسلام“ کی ترجیحی کرتے ہوں۔

اسلامی موضوعات پر مغربی زبانوں میں مؤثر اور معیاری کتب کی کمی بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ انگریزی زبان میں اسلامیات پر ایک انتہائی وسیع کتب خانہ وجود میں آ چکا ہے۔ تاہم مغرب کی دیگر زبانوں میں ایسی کتب جو ”اسلام“ کی تھیک تھیک ترجیحی کرتی ہوں اب بھی کمیاب ہیں۔ بہرحال اسباب خواہ کچھ بھی کیوں نہ رہے ہوں یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان مغرب میں ”اسلام“ کو متعدد کرانے میں کماحدہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ چنانچہ جرمن نو مسلم دانش ور ڈاکٹر مراد ولفرائند ہوف میں یہ کہنے میں حق بجانب معلوم ہوتے ہیں کہ:

”روزمرہ کا مشاہدہ اور تجربہ ہے (اور یہ امر انتہائی افسوسناک ہے) کہ اسلامی دنیا سے تعلق رکھنے والے [موروثی] مسلمان بہت زیادہ حد تک دنیائے مغرب میں اپنے مذہب و عقیدہ کا مؤثر طور پر ابلاغ نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ ایک مغربی انسان کا طرز فکر اور ذہنی ساخت مختلف ہوتی ہے۔ لہذا داعی کو چاہیے کہ وہ ان کی ذہنی و فکری پیش رفت کا کامل طور پر لحاظ رکھے۔ [اسلام سے متعلق] ان [اہل مغرب] کی تاریخی غلط فہمیوں اور ان کی نہیں نفیات کا بھی (۱۰)۔“

مراد ہوف میں مغرب میں ”اسلام“ سے متعلق عمومی طور پر پائی جانے والی غلط فہمیوں کا جائزہ لیتے ہوئے مغرب میں ”دعوت اسلام“ کی حکمت عملی اور اس کے شرائط و مطالبات کے سلسلہ میں رقمطراز ہیں:

”یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ [اسلام سے متعلق] مغرب کی تمام غلط فہمیوں کے ڈائلے تاریخی حقائق و ارتقاء سے [جا] ملتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جو اس تہذیبی پیش رفت سے آگاہ نہیں ہے [مغرب میں] دعوت و تبلیغ کا فرض کامیابی سے ادا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ میری حکم رائے یہ ہے کہ کسی بھی خطے میں دعوت کا کام وہی مسلمان کریں جو خود اس خطے کی تہذیبی روایات میں پیدا ہوئے ہوں یا پلے بڑھے ہوں۔ داعی کو پتہ ہونا چاہیے کہ تبدیلی لانے اور قائل کرنے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے..... ایک بار پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ اسلام کو ان غلط فہمیوں کا جواب انہی لوگوں کے ذریعے دینا چاہیے جو مخالفین اور سامعین کے سامنے ان کی بولی، انہی کے لب و لبجھ میں بولتے ہوں..... چنانچہ یہ اشاعت اسلام کے سلسلہ میں بڑی خدمت ہو گی اگر مسلمان دانش ور خود کو بیک وقت

کامیاب اہل علم اور ساتھی [اپنے عقیدہ و مذہب کے] قائل اور باعمل مسلمان کی حیثیت سے پیش کریں (۱۱)۔“

مراد ہوف میں مزید رقتراز ہیں (مغرب میں دعوت اسلام کے ضمن میں):

”ہم یہ بات سمجھ لیں کہ دعوت کا سب سے کامیاب طریقہ یہ ہے کہ ہم خالص غیر اسلامی ماحول میں اسلام کے مطابق زندگی گزاریں خاموشی اور پر امن طریقے سے لیکن اقدامی طور پر اعتقاد و اظہار کے ساتھ۔ آج یا کل ہمارے پڑوی ضرور [ہماری طرف] متوجہ ہوں گے اور ہماری صفائی سترھائی، راست بازی، دوستی و محبت، ایمان داری و شرافت اور وقار و سنجیدگی سے ضرور اثر قبول کریں گے۔ پھر وہ خود ہی سوال کریں گے اور ہم خود بخود اپنی دعوت کے درمیان ہوں گے (۱۲)۔“

نو مسلم دانش ور ڈاکٹر مراد ہوف میں نے مغرب میں ”دعوت و تبلیغ“ کی کامیاب حکمت عملی کے ضمن میں جن لازمی شرائط اور مطالبات کا ذکر کیا ہے اور ایک کامیاب داعی و مبلغ کے لیے جو معیار مقرر کیا ہے، ”دعوت و تبلیغ“ کے میدان میں سرگرم عمل افراد میں خال خال ہی ایسے ہوں گے جو اس پر پورا اترتے ہوں گے۔ تاہم عصر حاضر میں دو نامور شخصیات ایسی بھی ہو گز ری ہیں جو اس معیار پر نہ صرف پورا اترتی تھیں بلکہ مرتبہ کمال پر فائز تھیں۔ ابھی سے مراد نو مسلم مفکر و دانش ور محمد اسد (۱۹۰۰ء - ۱۹۹۲ء) (۱۳) اور ان کے ہم عصر ڈاکٹر محمد حمید اللہ (۱۹۰۸ء - ۲۰۰۲ء) ہیں (۱۴)۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کو تو اس باب میں اپنے تمام پیش رو اور ہم عصر علماء اور مبلغین و دعاۃ پر تفوّق و فضیلت حاصل تھی۔ بلا تردید یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ مغرب میں دعوت و تبلیغ دین کے سلسلہ میں جو کامیابی انہیں حاصل ہوئی وہ آج تک کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہوئی۔ سطور ذیل میں مغرب میں دعوت اسلام کی راہ میں درپیش مشکلات و مسائل کے تناظر میں محمد حمید اللہ کی دعویٰ و تبلیغی کاوشوں کا جائزہ پیش کیا جائے گا۔

ڈاکٹر محمد حمید اللہ مغرب میں:

ڈاکٹر محمد حمید اللہ جامعہ عثمانیہ (حیدر آباد کن) سے ایل۔ ایل۔ بی۔ اور ایم۔ اے کے امتحانات پاس کرنے کے بعد جامعہ عثمانیہ (کہ جہاں وہ فقد و قانون میں الہماں کے استاد مقرر کیے گئے تھے) ہی کی طرف سے اسلامی و یورپی قانون میں الہماں کے تقابلی مطالعہ پر تحقیق کے لیے وظیفہ پر جنمی چلے گئے۔ انہوں نے بون یونیورسٹی سے انتہائی قیل عرصہ (نو دس ماہ) میں اسلامی قانون کے میں

الاقوامی پہلو پر اپنا تحقیقی مقالہ مکمل کر کے ڈی۔ فل کی سند حاصل (۱۹۳۳ء) کی۔ بعد ازاں وہ پیرس چلے گئے اور وہاں کی مشہور و معروف سوربون (Sorbonne) یونیورسٹی سے گیارہ ماہ کی قلیل مدت میں ”عہد نبوی اور عہد خلافت راشدہ میں اسلامی سفارت کاری“ کے موضوع پر تحقیقی مقالہ مکمل (اگست ۱۹۳۲ء) کر کے ڈی۔ لٹ کی سند حاصل کی۔ جرمی اور فرانس یورپ کے دو ایسے ممالک کہ جن کا شمار ”استشراق“ کے اہم ترین مرکز میں ہوتا ہے، میں قیام کے دوران انہوں نے مستشرقین کے انداز تحقیق و تصنیف میں اعلیٰ درجہ کی مہارت حاصل کر لی اور وہاں کے کتب خانوں میں موجود بیش قدر قلمی کتابوں اور منظوظ جات سے استفادہ کیا۔ فرانس سے واپسی پر ڈاکٹر محمد حمید اللہ جامعہ عثنیہ کے شعبہ دینیات اور شعبہ قانون میں درس دیتے رہے۔ سقوط دولت آصفیہ (حیدر آباد دکن) سے کچھ عرصہ پہلے وہ نظام کی طرف سے ریاست کی آزادی و خود مختاری کے تحفظ و بقاء کی غرض سے اقوام متحده کی سلامتی کوںسل میں بھیج گئے سفارتی مشن کے قانونی مشیر کے طور پر ایک بار پھر پیرس چلے گئے۔ سقوط کا سانحہ پیش آنے کے بعد وہ واپس نہیں لوٹے اور پھر پیرس ہی کے ہو کر رہ گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ (۱۹۲۸-۱۹۹۶ء) پیرس میں گزار دیا۔ آخری چند سال، علاالت کے باعث جبکہ ان کی علمی و تحقیقی سرگرمیوں کا سلسلہ یکسر موقوف ہو گیا تھا، اپنے عزیزوں کے ہاں امریکہ میں برس کیے۔

ڈاکٹر محمد حمید اللہ پیرس میں تقریباً اڑتا لیں سالہ قیام کے دوران ہمہ وقت علمی و تحقیقی، تصنیفی و تالیفی اور دعویٰ و تبلیغی سرگرمیوں میں مشغول رہے۔ جہاں انہوں نے اپنی زندگی صحیح تر معنوں میں دین اسلام کے ایک سفیرو ترجمان اور اس کے ایک داعی و مبلغ کی حیثیت سے ببرکی۔ مغرب میں دعوت و تبلیغ کے حوالہ سے محمد حمید اللہ کی کاؤشوں کی مختلف و متنوع جہتیں ہیں جنہیں حسب ذیل عنوانات

دیے جاسکتے ہیں:

- ۱۔ مستشرقین کے پھیلانے ہوئے زہر کا تریاق۔
- ۲۔ مغربی زبانوں میں اسلامی ادب کی تیاری۔
- ۳۔ بین المذاہبی مکالموں، علمی و تحقیقی مجالس و مذاکرات اور کانفرنسوں میں اسلام کی تربجانی۔
- ۴۔ نو مسلموں میں دعوت اسلام۔
- ۵۔ مسلمانوں کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام۔

ان عنوانات کی تفصیل درج ذیل ہے۔

۱۔ مستشرقین کی تحقیقات کے مفہی اثرات کا ازالہ:

دعویٰ نقطہ نظر سے ڈاکٹر محمد حمید اللہ کا اہم ترین دین (contribution) یہی ہے کہ انہوں نے اسلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، احادیث و سنن کی مدون و حفاظت، اور فقہ اسلامی کے مأخذ و مصادر کے بارے میں مستشرقین کے پھیلائے ہوئے مغالطوں اور شکوک و شبہات اور ان کے پیدا کردہ مفہی اثرات و نتائج کا تریاق فراہم کرنے کی ایک انتہائی موثر اور کامیاب کوشش ہے۔ مغرب میں دعوت و تبلیغ اسلام کی راہ میں ایک انتہائی بڑی رکاوٹ (جیسا کہ اشارتاً اس مقالہ کے آغاز میں ذکر کیا جا چکا ہے) مستشرقین کی تحقیقات و تصانیف رہی ہیں۔ ان میں اسلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق، آپ کی احادیث و سنن اور فقہ و قانون اسلامی کی ایک ایسی تصوری پیش کی گئی ہے کہ ان کے مطالعہ کے بعد ایک مغربی انسان کو دین اسلام میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی اور اس کے دل و دماغ میں اس کے بارے میں نفرت و بدگمانی جڑ پکڑ لیتی ہے۔ اور تو اور موروثی مسلمان بھی ان کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ جدید تعلیم یافتہ طبقات [جنہوں نے اسلام کا مطالعہ مغربی زبانوں اور مستشرقین کی کتب کے ذریعہ کیا ہے] کے ذہنوں میں اسلام کے مستقبل سے نا امیدی، اس کے حال سے بیزاری اور اس کے ماضی سے بدگانی پیدا کرنے میں مستشرقین کی علمی و تحقیقی کاوشوں کا کردار بڑا اہم رہا ہے۔ سید ابو الحسن علی ندوی، جنہوں نے مستشرقین کے مطالعہ اسلام کے محکمات کا بڑی وقت نگاہ سے جائزہ پیش کیا ہے، ان مستشرقین کے اسلوب و نتیج تحقیق و تصنیف اور اس کے مفہی اثرات و نتائج کے ضمن میں رقتراز ہیں:

”وہ [مستشرقین] اپنے کام میں (یعنی اسلام کی تاریک تصوری پیش کرنے میں) اس سبک دتی، ہنر مندی اور صبر و سکون سے کام لیتے ہیں، جس کی نظریہ ملنی مشکل ہے۔ وہ پہلے ایک مقصد تجویز کرتے ہیں اور ایک بات طے کر لیتے ہیں کہ اس کو ثابت کرنا ہے، پھر اس مقصد کے لیے ہر طرح کے رطب و یابن، مذهب و تاریخ، ادب، افسانہ، شاعری، مستند ذخیرہ سے مواد فراہم کرتے ہیں اور جس سے ذرا بھی ان کی مطلب برآری ہوتی ہو (خواہ وہ صحت و استناد کے اعتبار سے کتنا ہی مجروح و مشکوک اور بے قیمت ہو) اس کو بڑے آب و تاب سے پیش کرتے ہیں اور اس متفرق مواد سے ایک نظریہ کا پورا ڈھانچہ تیار کر لیتے ہیں۔ اکثر مستشرقین اپنی تحریریں میں ”زہر“ کی ایک مناسب مقدار رکھتے ہیں؛ ان کی تحریریں زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہیں اور ایک متوسط آدمی کا ان کی زد سے بچ کر

نکل جانا مشکل ہے۔ قرآن، سیرت نبی ﷺ، فقہ و کلام، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین و فقہاء، مشارح و صوفیاء رواۃ حدیث، فن جرح و تدبیر، اسماء الرجال، حدیث کی صحت، تدوین حدیث، فقہ اسلامی کے مأخذ، فقہ اسلامی کا ارتقاء ان میں سے ہر ایک موضوع سے متعلق مستشرقین کی کتابوں اور تحقیقات میں اتنا تشکیکی مواد پایا جاتا ہے، جو ایک ذہین و حساس آدمی کو، جو اس موضوع پر وسیع اور گہری نظر نہ رکھتا ہو، پورے اسلام سے مخفف کر دینے کے لیے کافی ہے۔۔۔۔۔ ان میں سے اکثر تصانیف اسلام کی بنیادوں پر تیشہ چلاتی ہیں اور اسلام کے سرچشمتوں (بیشول حدیث و فقہ) کو مخلوق کو قرار دیتی ہیں، (۱۵)۔

سید ابوالحسن علی ندوی، جن کی تاریخ دعوت و تبلیغ اسلام پر بڑی گہری نظر ہے، مسلم معاشروں میں تیزی سے پھیلتے ہوئے ذہنی و فکری ارتکاد کی روک تھام اور مغرب میں دعوت اسلام کی توسعہ کے لیے مستشرقین کی علمی تحقیقات کے محاسبہ و ناقدانہ جائزہ کو ایک ناگزیر ضرورت اور عظیم الشان دینی خدمت قرار دیتے ہیں (۱۶)۔

فضل مؤرخ و مفکر رقطراز ہیں:

”مستشرقین کے تجربی و تشکیکی اثرات کو روکنے کی صرف یہی صورت ہے کہ ان علمی موضوعات پر مسلمان محققین و اہل نظر قلم اٹھائیں اور مستشرقین کی ان تمام قابل تعریف خصوصیات کو لمکون رکھتے ہوئے بلکہ ان کو ترقی دیتے ہوئے جو ان کا حصہ سمجھی جاتی ہیں مستند و صحت مند اسلامی معلومات اور نقطہ نظر پیش کریں۔ یہ ایسی تقنیفات ہوں جو اپنی تحقیقات کی اصلیت (originality)، مطالعہ کی وسعت، نظر کی گہرائی اور عمق مأخذ کے استناد و صحت اور اپنے محکم استدلال میں مستشرقین کی کتابوں سے کہیں فاقد و ممتاز ہوں۔ ان میں ان کی تمام خوبیاں ہوں اور وہ ان کی کمزوریوں اور عیوب سے پاک ہوں۔ دوسری طرف ان مستشرقین کی کتابوں کا علمی محاسبہ کیا جائے، ان کی تلپیسات کو بے نقاب کیا جائے۔ [اسلامی مأخذ کے] متن کے سچھے میں ان کی غلط فہمیوں اور ترجمہ و اخذ مطلب میں ان کی غلطیوں کو واضح کیا جائے۔ ان کے مأخذ کی کمزوری اور ان کے اخذ کیے ہوئے نتائج کی غلطی کو روشن کیا جائے اور ان کی دعوت و تلقین میں ان کی جو بد نیتی ہے، مذہبی اغراض اور سیاسی مقاصد شامل ہیں ان کو طشت از بام کیا جائے۔ اور بتایا جائے کہ یہ اسلام اور ملت اسلامیہ کے خلاف کیسی گہری اور خطرناک سازش ہے،“ (۱۷)۔

سید ابو الحسن علی ندوی "اس نوعیت کے کام کی اہمیت و افادیت کی بابت رقطراز ہیں:
 "یہ تحقیقی کام نہ صرف اس فکری ارتاداد کی روک قام کے لیے سد سکندری ثابت ہو گا جو
 [عالم اسلام کے] ذہین تعلیم یافتہ نوجوانوں کو بھائے لے جا رہا ہے اور جو ان ممالک میں
 مغربی سامراج کے آہنی شکنجنوں میں گرفتار رہ پچکے ہیں، جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہا
 ہے بلکہ مغرب میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے بھی مفید و مددگار ثابت ہو گا، پھر
 مشیت الہی جس کو سعادت کا پروانہ دینا چاہے گی وہ اسلام کے "چشمہ حیات" کی طرف
 کشاں کشاں آئے گا" (۱۸-الف)۔

سطور بالا میں سید ابو الحسن علی ندوی نے (مستشرقین کی علمی تحقیقات کے منفی اثرات کے ازالہ کی
 غرض سے) بحث و تحقیق اور تصنیف و تالیف کے میدان میں جس نوعیت کی کاوشوں کو عالم اسلام کے
 لیے ایک ناگزیر ضرورت اور اسے ایک عظیم الشان دینی خدمت قرار دیا ہے ڈاکٹر محمد حمید اللہ اس کی
 اہمیت سے کا حقہ آگاہ تھے۔ وہ اس کام کو مغرب میں دعوت و تبلیغ کے نقطہ نظر سے ناگزیر گردانتے
 تھے۔ (۱۸-ب) اس سلسلہ میں ان [محمد حمید اللہ] کے کام (جو کیتی اور کیفیت دونوں اعتبار سے نہایت
 وقیع ہے) کے حسب ذیل گوشے انتہائی قابل قدر اور نمایاں ہیں:

الف: انہوں نے ذخیرہ احادیث و سنن کو تاریخی اعتبار و استناد فراہم کیا ہے۔ وہ عالم اسلام کی ان
 اولین شخصیتوں میں سے ہیں جنہوں نے بڑی تحقیق، دلائل، قرآن اور شواہد سے اس بات کو
 پورے طور سے ثابت کیا کہ صحابہ کرام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں
 حدیث کی تحریر و تسویہ اور تدوین کا کام شروع ہو چکا تھا۔ جس میں دور تابعین میں بڑی وسعت
 پیدا ہوئی۔ صحابہ کرام "سے یہ پورا ذخیرہ زبانی اور تحریری دونوں طرح سے تابعین کو منتقل ہوا۔ اور
 اسی طرح سے تابعین نے اپنے بعد کی نسل تک پہنچایا۔ اس وقت حدیث کے جتنے مجموعے
 ہمارے سامنے ہیں یہ سب کے سب نہ صرف سند متصل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک
 پہنچتے ہیں بلکہ ہر دوڑ ہر سطح پر تحریری یاداشتیں اور ذخیرہ بھی موجود تھا جس پر ان کی بنیاد ہے (۱۹)۔
 ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے صحیح بخاری کے مأخذ کو بھی موضوع تحقیق بنایا اور اس کے اولین مأخذ میں
 سے حضرت ابو ہریرہؓ کے تلامذہ بالخصوص ہمام بن متبہ کے مرتب کردہ مجموعہ احادیث "صحیفہ ہمام
 بن متبہ" کو دریافت کیا اور اسے مرتب و مدون کر کے شائع کیا (۲۰)۔ تدوین و حفاظت حدیث
 کے بارے میں آپ کی تحقیقات کو بعد میں آنے والے مصنفوں محمد مصطفیٰ عظمی نے

تاریخی شہادتوں اور دستاویزوں سے اور زیادہ ملل اور حکم بنا کیا اور اس علمی دعویٰ کو اور زیادہ تفصیل سے ثابت کر دیا کہ تدوین حدیث کا کام عهد نبوی سے مجموعہ ہائے احادیث و سنن کی ترتیب و تدوین تک مسلسل طور پر جاری رہا^(۲۱)۔ محمد حمید اللہ کے گرانقدر علمی و تحقیقی کام کی بدولت آج کوئی مستشرق یا مستشرقین سے متاثر کوئی مستغرب یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ علم حدیث کی بنیاد سنی سنائی روایات پر ہے۔

ب: ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کی سیرت طیبہ کے بارے میں مغربی مستشرقین و مؤلفین کے خیالات و دعاویٰ کی تردید کا کارنامہ غیر معقولی مہارت اور حکم تاریخی دلائل و شواہد کی روشنی میں انجام دیا ہے۔ انہوں نے اس غرض سے خود انہی مستشرقین کے اسلوب تحقیق کو اختیار کر کے سیرت النبی ﷺ کے متعدد پہلوؤں (دینی، سماجی، معاشی و سیاسی اور دستوری و قانونی) کو اس طور سے اجاگر کیا کہ انبیاء و رسول کے ساتھ ساتھ تاریخ عالم انسانی کی عظیم مذہبی و سیاسی شخصیتوں، حکماء اور مصلحین و مدربین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امتیازی شان کے ساتھ عظمت و بزرگی کے ایک انتہائی بلند و بالا مقام پر فائز نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے خصوصیت سے اہل مغرب کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی سیرت و اخلاق اور دینی، سماجی، معاشی اور سیاسی میدانوں میں آپ کے کمالات سے متعارف کرنے کے لیے مغربی زبانوں (انگریزی، فرانسیسی اور جرمن) میں کشیر تعداد میں مقالات کے علاوہ متعدد فاضلانہ تحقیق تصانیف پیش کی ہیں^(۲۲)۔ یہ کتب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مغربی مستشرقین و مؤلفین کے پھیلائے ہوئے زہر کے لیے تریاق کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان کا مطالعہ ایک سلیم النظرت انسان، کہ جس کے دل و دماغ کو تعصبات اور ہٹ و ہڑی و عناد نے انداھا نہ کر دیا ہو، کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ و شیفتہ بنانے کی پوری پوری صلاحیت رکھتی ہیں^(۲۳)۔

ج: ڈاکٹر محمد حمید اللہ کا ایک اہم علمی و تحقیقی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے حکم دلائل، قرآن اور شواہد سے مستشرقین کے اس دعویٰ کو پورے طور سے غلط ثابت کیا ہے کہ اسلامی قانون در اصل ”قانون روما“ سے ماخوذ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اسلامی قانون اور قانون روما کے جوہری و حقیقی فرق و امتیاز کو بڑی صراحة اور وضاحت سے ثابت کیا ہے^(۲۴)۔ اس غرض سے اسلامی فقہ کے ارتقاء اور اس کی تدوین اور خصوصیت سے امام ابو حنفیہ کے منہاج پر ان کا کام را کشنا حیثیت رکھتا ہے^(۲۵)۔ اس باب میں ان کا دوسرا اہم کارنامہ اسلام کے میں الاقوامی قانون کی

جدید خطوط پر ترتیب و مدون ہے۔^(۲۶)

د: محمد حمید اللہ نے اپنی تحریروں میں مستشرقین و مسیحی مؤلفین کی کتابوں کا علمی محاسبہ کرتے ہوئے ان کی تلپیسات کو خوب بے ناقاب کیا ہے۔ قرآن حکیم اور احادیث کے متن کے علاوہ کتب تفاسیر و فقہ کی عبارتوں کے سمجھنے اور ان کی تحلیل و تشریع میں ان کی غلطیوں کو واضح کیا ہے۔ مستشرقین نے جہاں کہیں بھی اپنی مطلب برآری کے لیے حقائق کو مسخ کر کے پیش کیا ہے ان کی نشاندہی کی ہے۔ اس ضمن میں ڈاکٹر صاحب کی وہ تحریریں بطور خاص قابل ذکر ہیں جو ان کے قلم سے مستشرقین و مسیحی مؤلفین کی کتب پر نقد و تبرہ کے طور پر نکلی ہیں^(۲۷)۔

بلاشبہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے اپنی ان تحقیقات و تصنیفات کے ذریعے اسلام کے بارے میں مستشرقین و مغربی مؤلفین کے پھیلائے ہوئے مغالطوں اور شکوک و شبہات (جو کہ مغرب میں دعوت و تبلیغ اسلام کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہیں) کا ٹھوں دلائیں اور شوہد سے رد کر کے ایک بہت اہم دینی خدمت انجام دی ہے۔ انہوں نے مستشرقین کے اسلوب تحقیق و تصنیف کو بروئے کار لاتے ہوئے مغرب کے سامنے اسلام کو ایک اصلی و حقیقی شکل و صورت میں پیش کیا ہے۔ مختلف و متنوع موضوعات پر وسیع و عریض عربی و اسلامی ماذد سے مستند صحت مند معلومات کی فراہمی اور پھر ان کی ایسی تحلیل و تشریع کی جس سے اسلام کی حقانیت اور اس کی عظمت و فضیلت اجاگر ہوتی ہو، ان کی تحریروں کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ تصنیف و تالیف کے میدان میں اپنی انہی خصوصیات کی بنا پر انہیں بعض علمی و نکری حلقوں کی طرف سے ”علم اسلام کا جید و ممتاز مستشرق بھی“، قرار دیا گیا ہے^(۲۸)۔ پروفیسر خورشید احمد رقطراز ہیں:

”میری نگاہ میں ڈاکٹر محمد حمید اللہ مسلمانوں میں پہلے اور آخری مستشرق ہیں۔ مستشرق میں ان کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مستشرقین کے طریق تحقیق (methodology) پر ایسی ہی قدرت حاصل کر لی تھی جیسی فرزانی نے یونانی فلسفے پر۔ وہ تحقیق اور طریق تالیف کے باب میں مستشرق ہوئے لیکن اس پہلو سے مستشرقین سے مختلف تھے کہ ان کا قبلہ درست تھا۔ ان کے اصل مأخذ قرآن و سنت اور مسلمانوں کے معترض اہل علم کی تصانیف تھیں۔ انہوں نے اسلام کو جیسا کہ وہ ہے، دنیا کے سامنے پیش کیا۔ البتہ تحقیق و تصنیف، تلاش و جستجو، نقد و احصاب کے ان تمام ذرائع کو کامیابی اور قدرت کے ساتھ استعمال کیا جو مستشرقین کا طرہ امتیاز سمجھے جاتے ہیں اور اس طرح علمی میدان میں اہل مغرب کا جو قرض مسلمانوں پر تھا اسے فرض کفایہ کے انداز میں ڈاکٹر صاحب نے چکا دیا

اور ساتھ ساتھ وہ کیا جئے اگریزی محاورے [میں] paying in the same coin اگریزی محاورے [میں] کہا جاتا ہے۔ احمد اللہ^(۲۹)

مغربی زبانوں میں اسلامی ادب کی تیاری:

مغرب میں دعوت و تبلیغ کے حوالہ سے محمد حمید اللہ کا کام صرف مستشرقین کی تصانیف و علمی تحقیقات کے ناقدانہ جائزہ حقائق و واقعات کی روشنی میں ان کے علمی احتساب، ان کی دیسیسے کارپوں اور غلطیوں کی نشاندہی تک ہی محدود نہیں رہا۔ انہوں نے گراں قدر ثابت اور تعمیری کام بھی انجام دیا ہے۔ انہوں نے مغرب میں اسلام کا ایسا مؤثر اور معقول تعارف کرایا ہے اور اس طرح سے اسلامی دعوت پیش کی ہے جو اسلام کے مزاج اور اس زمانہ اور اقوام مغرب کی نفیات کے مطابق ہے۔

محمد حمید اللہ اردو، عربی، فارسی اور ترکی کے علاوہ اہم مغربی زبانوں اگریزی، فرانسیسی، اطالوی، جرمن اور ہسپانوی پر بھی دسترس رکھتے تھے۔ انہوں نے اس لسانی مہارت اور استعداد کو دعوتی و تبلیغی مقاصد کے لیے بھرپور طور سے استعمال کیا اور ان مغربی زبانوں میں سیرت النبی ﷺ اور اسلامی قانون کے علاوہ اسلام کے عقائد و عبادات، اور اس کی معاشرتی، معاشی، اخلاقی اور سیاسی تعلیمات پر مختصر لیکن جامع کتب تصنیف کیں۔ اس سلسلہ میں اُنکی اگریزی کتب Islam: Introduction to Islam^(۳۰) اور A General Picture^(۳۱) بطور خاص قبل ذکر ہیں۔ اول الذکر جو نو مسلم افراد کی ضروریات کو پیش نظر رکھ کر تصنیف کی گئی ہے، نو مسلم ہی کیا مشرق و مغرب میں آباد مسلمانوں کی نئی نسلوں کے لیے ایک دینی رہنمای اور معلم کا درجہ رکھتی ہے۔ موناخ الذکر بیرونیان میسیحیت کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کرنے کی غرض سے تصنیف کی گئی ہے^(۳۲)۔

اسی سلسلہ میں محمد حمید اللہ کا ایک انتہائی اہم کام مغربی زبانوں میں قرآن حکیم کا ترجمہ ہے۔ وہ دنیائے اسلام کے ایک ایسے فقید الشال شخص ہیں کہ جنہوں نے تین یورپی زبانوں یعنی فرانسیسی، جرمن اور اگریزی میں ترجمہ قرآن کیا۔ فرانسیسی ترجمہ مع حواشی (Le Saint Coran) کو فرانسیسی زبان سے مسلک ممالک میں غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ یہ ترجمہ ان ممالک میں قرآن کے پیغام کی اشاعت کا ایک مستند ذریعہ بن گیا ہے^(۳۳)۔ جرمن زبان میں بھی محمد حمید اللہ نے سورہ فاتحہ سے سورہ انعام تک (تقریباً چھ پارے) ترجمہ کیا ہے^(۳۴)۔ اگریزی میں ان کے قلم سے ایک سلیس ترجمہ و تفسیر (سورہ بقرہ کے اوآخر تک) ۱۹۶۵ء کے دوفان ڈرین (جنوبی افریقہ) کے رسالہ ”الحادی الائین“ میں شائع ہوتی رہی ہے^(۳۵)۔ محمد حمید اللہ نے ”القرآن فی كل لسان“ کے نام سے

دنیا کی تمام زبانوں میں سورہ فاتحہ کے ترجمہ کی اشاعت کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا تھا۔ یہ تراجم فرانس کے اسلامی رسالہ ”فرانس اسلام“ (France Islam) اور بعض دوسرے رسالوں میں شائع ہوتے رہے (۳۶)۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ (م ۱۷۶۲ء) نے اپنی معرکۃ الاراء تصنیف ”جیۃ اللہ البالغۃ“ میں احکام شرعیہ کی ترجیحی و تشریع کا جو حکیمانہ اسلوب اختیار کیا ہے، محمد حمید اللہ اسے اہل مغرب کو اسلامی احکام و مسائل کی حکمت و فلسفہ ذہن نشین کرنے کی غرض سے بڑا مفید خیال کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس تصنیف کا فرانسیسی میں ترجمہ کرنا شروع کیا تھا۔ وہ اس کام کو اپنے بعض دوسرے علمی منصوبوں پر مقدم رکھتے تھے (۳۷)۔

اسی سلسلہ میں محمد حمید اللہ کا ایک اہم کارنامہ امام بخاری کی ”جامع الصحن“ کے وضاحتی اشاریہ کی (عربی کے علاوہ) فرانسیسی زبان میں ترتیب و تدوین ہے۔ اس اشاریہ (جو تاحال غیر مطبوعہ حالت میں ہے) کی اشاعت سے فرانسیسی زبان جانے والوں کے لیے احادیث کے مستند ترین مجموعہ سے استفادہ میں آسانی ہو جائے گی۔

مغرب کے مسیحی پس منظر کے پیش نظر ڈاکٹر محمد حمید اللہ اپنی تصانیف کے ذریعے اسلام اور دیگر مذاہب بالخصوص میسیحیت کا تقابیلی جائزہ بھی پیش کرتے رہے۔ فرانس کے بعض اشاعتوں اور اولوں نے مختلف دینیاتی و مذهبی مسائل پر بعض ایسی کتب شائع کی ہیں جن میں مختلف مذاہب کے علماء کی تحریریں، کہ جن میں مصنفوں نے اپنے اپنے مذہب کا موقف پیش کیا ہے، شامل کی گئی ہیں۔ محمد حمید اللہ ایسی متعدد کتب کے شریک مصنف ہیں۔ ایسی ہی ایک کتاب حضرت ابراہیم پر شائع ہوئی ہے۔ تین ابواب پر مشتمل اس کتاب کا ایک باب ڈاکٹر صاحب کے قلم (بقیہ دو ابواب یہودی اور عیسائی علماء کے ہیں) سے نکلا ہے۔ اس میں انہوں نے حضرت ابراہیم کی نبوت و رسالت اور ان کی دعوت و تعلیمات کو اسلامی مآخذ کی روشنی میں اجاگر کیا ہے (۳۸)۔ ڈاکٹر صاحب اپنی زندگی کے آخری سالوں (علالت سے قبل) میں مسیحی و اسلامی مأخذ کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح عمری بھی تصنیف کر رہے تھے (۳۹)۔ بلاشبہ اس نوعیت کی علمی و تحقیقی سرگرمیاں مسیحی حلقوں میں دعوت کے نقطہ نظر سے بڑی اہمیت و افادیت کی حامل ہیں۔ ان کی بدولت سابق الہامی مذاہب اور ان کی اہم شخصیات کے بارے میں اسلام کے موقف کی اشاعت کا موقع ملتا ہے۔ اسلام اور دیگر الہامی مذاہب کے باہمی تعلق کے بارے میں مسیحی حلقوں میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کے ازالہ میں مدد ملتی ہے۔

ڈاکٹر محمد حمید اللہ مغرب میں دعوت اسلام کے سلسلہ میں مسیحیت کے تنقیدی مطالعہ کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ البتہ وہ مسلمان علماء کی طرف سے مسیحی عقائد و تعلیمات پر وارد کیے جانے والے سطحی و ناکافی معلومات پر بنی اعترافات کو غیر موزوں گردانے تھے۔ پروفیسر ظفر علی قریشی کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں:

”میری دانست میں زیادہ مفید یہ ہو کہ مسیحیت کا ہم لوگ مطالعہ کر کے عیسائیوں کو مخاطب کریں، ان کو یہ سوچنے پر آمادہ کریں کہ وہ جن چیزوں کو بے غور و فکر مانے چلے آتے ہیں، ان پر غور کریں۔ مثال کے طور پر ان کے ”سورہ فاتحہ“ اور ان کے ”امانت باللہ.....“ میں بیان ہوا ہے کہ حضرت مسیح نبی میں دن جہنم میں رہے یا یہ کہ ”اے اللہ ہم کو معاف کر جس طرح ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں“ گویا دعا کیا ہے، خدا پر احسان جتنا یا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ لٹریپر..... یورپ اور امریکہ میں بھی پھیلایا جا سکتا ہے۔ مگر اولاً صحیح معلومات حاصل کرنا ہوں گے۔ ہمارے اعترافات تثییث وغیرہ پر اب تک واقعی بچگانی انداز کے ہوتے رہے ہیں اس لیے پڑھنے والے عیسائی ان پر صرف نہیں دیتے ہیں،“^(۴۰)۔

ذکورہ اقتباس سے یہ امر بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ محمد حمید اللہ مغرب میں دعوت و تبلیغ کے کام کو مؤثر طور پر انجام دینے کے لیے اسلام کے بنیادی ماذد میں رسول کے ساتھ گزشتہ الہامی مذاہب کی تعلیمات و عقائد سے گہری واقفیت کو بھی ناگزیر گردانے ہیں، تاکہ دعاۃ و مبلغین اپنے مسیحی مخاطبین کے سامنے اسلام کے عقائد و تعلیمات کی بہتر طور پر ترجمانی کر سکیں۔

۳۔ بین المذاہبی مکالموں، علمی مذاکروں (سیمیناروں) اور کانفرنسوں میں اسلام کی ترجمانی:

ڈاکٹر محمد حمید اللہ کو اپنے علم و فضل اور بلند پایہ تحقیقات کی بدولت مغرب خصوصیت سے فرانس کے علمی و تحقیقی حلقوں میں اسلام کے ایک سربرا آورہ ترجمان و شارح کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا۔ چنانچہ مختلف غیر مسلم (مسیحی) مذاہبی انجمنوں اور اداروں کی طرف سے بین المذاہبی مکالموں (Inter-faith dialogue) کے جن میں دینیاتی و اخلاقی اور روحانی مسائل پر مختلف مذاہب کے علماء اور ماہرین اپنے مذاہب کا موقف پیش کرتے ہیں، اسلام کے موقف کی ترجمانی کے لیے محمد حمید اللہ کو دعوت دی جاتی۔ ڈاکٹر صاحب یہ کام بڑی مہارت اور خوش اسلوبی سے انجام دیتے جس کی بدولت بسا اوقات دیگر مذاہب کے رہنماء اپنے سابق مذاہب سے ترک تعلق کر کے حلقہ بگوش اسلام ہو

جاتے (۲۱)۔ محمد حمید اللہ بین المذہبی مکالموں میں شرکت کے ساتھ ساتھ فرانس اور دیگر ممالک میں مسلم اور غیر مسلم اداروں اور انجمنوں کی دعوت پر مختلف اسلامی موضوعات پر توسمی خطبات بھی دیتے رہے۔ مختلف کانفرنسوں اور علی مذاکروں میں شرکت اور خطبات ان کی زندگی کا ایک معقول رہا۔ یہ چیز ان کے دعویٰ و تبلیغی کام میں بڑی مفید و معاون ثابت ہوئی۔ اس سے انہیں اپنے خیالات مسلم اور غیر مسلم ہر طرح کے لوگوں تک پہنچانے کا موقع ملتا رہا (۲۲)۔

محمد حمید اللہ فرانس میں مسیکی مشنریوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کے پیش نظر مختلف علاقوں میں قائم مساجد اور اسلامی انجمنوں کی طرف سے منعقدہ جلسوں میں "عیسائیت" کے موضوع پر لکھر بھی دیتے رہے۔ وہ اپنے لیکھروں میں اسلام اور مسیحیت کی تعلیمات کا مقابلی جائزہ پیش کرتے ہوئے اسلام کی دیگر مذاہب پر تفوق و فضیلت کو واضح کرتے (۲۳)۔ غرض یہ یہ کہ (بقول پروفیسر خورشید احمد) "انفرادی ملاقاتوں سے لے کر تبلیغی دورے اور ملکی اور بین الاقوامی کانفرنسیں..... ہر جگہ انہوں [ڈاکٹر محمد حمید اللہ] نے دعوت کا کام انجام دیا،" (۲۴)۔

غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ:

ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے آغاز شباب میں ان کے پچا اور استاد و مرتبی قاضی محمود نے ان کو وصیت کی تھی کہ تم فرنگیوں میں اسلام کی اشاعت و تبلیغ کا کام ضرور کرنا۔ چنانچہ انہوں نے اس نصیحت کو گرہ میں باندھ لیا۔ وہ فرانس میں قیام کے دوران اس مشن کی بجا آوری میں پورے اخلاص اور دلجمی سے لگے رہے۔ ان کے ہاتھوں سینکڑوں فرانسیسی مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کیا جن میں کئی عیسائی پادری اور راہب بھی شامل ہیں (۲۵)۔

محمد حمید اللہ دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں کسی خاص طریقہ کے پابند نہ تھے، نہ وہ اس کے لیے تبلیغی جماعت کے ارکان کی طرح کوئی گشت کیا کرتے تھے۔ اس میدان میں ان کو جو غیرمعمولی کامیابی حاصل ہوئی اس میں دو باتوں کا کردار انتہائی اہم رہا۔ انہوں نے اپنی تحریروں، لیکھروں اور مذہبی مکالموں میں ہونے والی گفتگوؤں کے ذریعے دین اسلام کو اس طور سے پیش کیا کہ لوگ ممتاز ہوئے بغیر نہ رہ سکے (۲۶)۔ اس باب میں دوسری اہم چیز خود ان کا اپنا ذاتی اخلاق و کردار تھا۔ انہوں نے صحیح تر معنوں میں لوگوں کے سامنے اسلامی سیرت و کردار کا نمونہ پیش کیا۔ خوش اخلاقی، تواضع، استقامت و تقاضت پسندی، اخلاص و للہیت، ایقاعے عہد، ملمساری، تقویٰ و درع، توکل علی اللہ اور عزیزیت و استقامت ان کی سیرت و شخصیت کے نمایاں اوصاف تھے۔ وہ غیر مسلموں سے انتہائی خنده پیشانی

اور عزت و احترام سے پیش آتے وہ ان غیر مسلموں سے ان کے کفر و شرک سے نفرت کے بجائے ہمدردانہ اور خیر خواہانہ رویہ اختیار کرتے، علمی و تحقیقی کاموں میں ان کی رہنمائی کرتے۔ غیر مسلم ان کے علم و فضل، دینداری اور سیرت و کردار سے متاثر ہو کر مشرف بہ اسلام ہو جاتے۔ مادام میاڑو وچ نای خاتون پیرس میں محمد حمید اللہ کے محلہ میں رہتی تھیں۔ انہیں فارسی سیکھنے کا شوق تھا تو ان کے پاس آتی رہیں اور کچھ عرصہ کے بعد انہی کے ہاتھوں مشرف بہ اسلام ہو گئیں^(۲۸)۔ (۲۷) محمد حمید اللہ دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں غیر مسلموں سے میل جول اور ان سے دوستی اور تعلق کو ناگزیر سمجھتے تھے۔ اور وہ خود زندگی بھر اس روشن پر قائم رہے^(۲۹)۔

فرانس میں مسلم دعاۃ و مبلغین کو دعوت و تبلیغ کے میدان میں مسیحی مشتریوں، ذرائع ابلاغ اور حکومت کی طرف سے معاندانہ و مخالفانہ رویہ کا سامنا رہا۔ مسیحی مشتری ملک میں اسلام کی روز افزوں اشاعت سے شدید نالاں جبکہ ذرائع ابلاغ اسلام اور اس کے پیروکاروں کے خلاف ایک زبردست پروپیگنڈا مہم میں مشغول رہے ہیں۔ حکومت مسلم آبادی کی دینی و دعویٰ سرگرمیوں کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتی رہی ہے۔ ۱۹۸۰ء کی دہائی کے ربع آخر سے فرانس کی سابق نو آبادی "الجزائر" میں اسلامی تحریک کی سیاسی میدان میں پیش رفت بالخصوص اسلامی عسکریت پسند گروہوں اور ریاستی اداروں کے مابین تصادم اور اول الذکر کی طرف سے غیر ملکی بالخصوص فرانسیسی شہریوں اور سفارت کاروں کے قتل جیسے واقعات کے فرانس میں "دعوت اسلام" پر منقی اثرات مرتب ہوئے۔ چنانچہ مسیحی مشتریوں، ذرائع ابلاغ اور حکومت تینوں کا رویہ شدید معاندانہ ہو گیا^(۳۰)۔ محمد حمید اللہ ان کے اثرات کو محضوں کیے بغیر نہ رہ سکے۔ مظہر ممتاز قریشی کے نام خطوط میں رقطراز ہیں:

"یہاں [فرانس میں] اسلام دشمنی ہے کہ روز افزوں ہو رہی ہے، اللہ رحم فرمائے۔.....
الجزائر والے احقوں نے فرانسیسی سفارت خانے کے سات آدمیوں کو قتل کر دیا، یہاں ہم بھگت رہے ہیں^(۵۰)۔"

تاہم وہ اس معاندانہ ماحول میں بھی میدان دعوت میں پوری طرح سے سرگرم عمل رہے۔ وہ اسلام کی دعوت کو حکمت و بصیرت کے ساتھ پیش کرتے رہے اور ان کی کاؤشوں کے ثبت نتائج بھی برا آمد ہوتے رہے۔ اپنے ایک خط میں رقطراز ہیں:

"یہاں الحمد للہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ہم موروٹی مسلمانوں کا عمل تو نہیں، صرف اللہ کی ہدایت سے وہ مسلمان ہو رہے ہیں^(۵۱)۔"

اپنے ایک انٹرویو میں فرماتے ہیں:

”حکومت مخالف ہے، چرچ مخالف ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، اس کے باوجود لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، یہ حیرت انگیز چیز ہے۔ سوائے اس کے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے“^(۵۲)

۴۔ مسلم اقلیت کی دینی تعلیم و تربیت:

مغربی معاشرہ میں آباد مسلم اقلیت کی سب سے اہم اور بنیادی دینی ضرورت اسلامی تعلیم و تربیت کا ایسا موثر انتظام ہے، جس کی بدولت نہ صرف یہ کہ وہ ایک سیکولر اور مذہب بیزار ماحول میں اپنے اسلامی شخص کو قائم و برقرار رکھ سکے بلکہ ”امت دعوت“ کی حیثیت سے اس معاشرہ میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ بھی انجام دے سکے۔ یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ مغرب میں موجود مسلمانوں کی آئندہ نسلوں کے اسلامی مستقبل کا انحصار اسی ضرورت (یعنی دینی تعلیم و تربیت کے موثر انتظام) پر ہی ہے^(۵۳)۔ محمد حمید اللہ پیرس میں قیام کے دوران اپنی بساط کی حد تک اس دینی و علمی فریضہ کی بجا آوری کے لیے کوشش رہے۔ پیرس میں ان کی ذات کو عرب اور افریقی ممالک سے آئے ہوئے طلاء کے معلم و مرتبی کی حیثیت حاصل تھی۔ وہ علمی و تحقیقی کاموں میں ان (طلاء) کی راہنمائی کے ساتھ ساتھ ان کے دل و دماغ میں اسلامی عقائد و تعلیمات کی حقانیت اس طور سے اتنا تھے کہ وہ ایک با عمل مسلمان داعی و مبلغ کی حیثیت سے زندگی گزار سکیں^(۵۴)۔ پیرس میں ان کی قیام گاہ دینی تعلیم کا ایک اہم ترین مرکز تھی۔ یہاں وہ مقامی وغیر ملکی طلاء کو تعلیم دیا کرتے اور تشنگان علم کو اپنے علم و فضل سے سیراب کیا کرتے تھے^(۵۵)۔ طلاء اور نوجوانوں میں وہ بے حد مقبول تھے۔ وہ ان کو وقت دینے میں بے پناہ فراخ دل تھے۔ ایج - ایم۔ عسکری، جو ۱۹۹۰ء کی دھائی میں پیرس میں پاکستانی سفارت خانہ سے مُسلک رہے، اپنے ذاتی مشاہدات کے بیان میں رقطراز ہیں:

”پیرس میں جب کبھی بھی ڈاکٹر [محمد حمید اللہ] صاحب سے ملاقات کے لیے ان کے ہاں پہنچا تو انہیں نوجوان طلاء میں گھرا ہوا پایا، جن میں سے پیشتر کا تعلق شمالی افریقیہ کے فرانسیسی بولنے والے ملکوں سے ہوتا تھا اور جو ان [ڈاکٹر صاحب] سے اسلام، قرآن اور فقہ کے مسائل پر مصروف گفتگو ہوتے تھے۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد جن میں امریکی، یورپی اور افریقی شامل تھے، ان کے زیر اثر حلقة بگوش اسلام ہوئی تھی۔ پیرس میں ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک انتہائی متاز خاتون مادام ایوا ڈی وترے میورو وچ

ڈاکٹر صاحب سے گھر پر تعلیم حاصل کرنے والوں میں فرانسیسی خواتین بھی شامل ہوتی تھیں۔
ڈاکٹر محمد حمید اللہ پیرس شہر میں شاہ مرادش کی تعمیر کروائی ہوئی مسجد سے ملحوظہ المركز الاسلامی، میں کئی سوالوں تک ہر اتوار کو قرآن و اسلام پر درس دیتے رہے اور یہیں ان کے ہاتھوں بیسیوں فرانسیسیوں نے اسلام قبول کیا۔ اگرچہ صدر ڈیگال کے دور حکومت میں کچھ عرصہ تک ان کے دروس و محاضرات پر پابندی بھی لگ گئی تھی تاہم بعد میں یہ سلسلہ پھر سے قائم ہو گیا تھا^(۵۶)۔ پیرس کی مساجد میں درس و تدریس ڈاکٹر صاحب کی زندگی کا ایک اہم معمول رہا۔ پروفیسر محمد منور مرزا پیرس میں ان کے معمولات کے متعلق رقطراز ہیں:

”پیرس میں میں ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے در دولت پر حاضر ہوا۔ ڈاکٹر صاحب موجود نہ تھے۔ پہنچ چلا کہ وہ کسی مسجد میں جا کے صبح ہی بیٹھ جاتے ہیں اور دین کی تعلیم کے خواہاں حضرات کے سوالوں کے جواب عرض کرتے ہیں اور اگر کوئی اسلام قبول کرنے آ جائے تو اسے اسلام کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں“^(۵۸)۔

محمد حمید اللہ فرانس میں مسلم اقلیت کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے ضروری و بنیادی ڈھانچہ (Infrastructure) یعنی مساجد و مدارس اور اسلامی مرکز کی تعمیر و ترقی میں بڑی سرگرمی اور جوش و جذبہ سے مشغول رہے^(۵۹)۔ وہ ایسے ہی مقاصد کے لیے قائم اسلامی انجمن ”جمعیۃ الصداقة الاسلامیۃ“ کے خازن اور روح روای رہے۔ ذیل میں ان کا ایک مکتب جو ۱۹۹۲ء میں انہوں نے ذکورہ انجمن کے خازن کی حیثیت میں، اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف کے نام تحریر کیا تھا کا کچھ حصہ نقل کیا جاتا ہے۔ اس خط سے ان کی دلچسپیوں اور سرگرمیوں پر روشنی پڑتی ہے۔

”خدا کا احسان ہے آج کل فرانس میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور واحد دن بھی نہیں گزرتا بغیر اس کے کہ متعدد فرنگی مسلمان نہ ہو جائیں۔ فرانس کا دارالسلطنت ”پاریس“ دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے اور ایک محلے سے دوسرے میں طویل مسافتیں ہیں، مسجدیں ہیں، لیکن روز افزوں ضروریات کے لیے نا کافی ہیں، خاص کر مضافات شہر میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے شوازی لرداؤ۔ وہاں بہت سے دیندار مسلمان بنتے ہیں، لیکن کوئی ایسا مکان نہیں ہے جہاں وہ جماعت سے نماز پڑھ سکیں..... ”جمعیۃ الصداقة الاسلامیۃ“ فرانس کی قدیم ترین اسلامی انجمنوں میں سے

ایک ہے۔ وہ ہفتہ وار دینی لکچر کرتی ہے، اسلامی کتابیں بھی شائع کرتی ہے، جو مقبول ہیں۔ سالہاں سال تک وہ ایک ماہوار فرانسیسی رسالہ شائع کرتی رہی، جس کا نام تھا ”فرانس اسلام“۔ حقیر رقم المحرف (محمد حمید اللہ) اس [انجمن] کا خازن ہے، طویل اور مشقت بھری تلاش کے بعد اسے شوازی لرد ایک مکان ملا، جو فروخت ہو رہا تھا اور ہماری موجودہ ضروریات کے لیے کافی تھا..... اس کی قیمت تھی ڈیڑھ ملین فرانک، سوائے رجنٹی رقم وغیرہ کے کثیر رقم ادا طلب باتی ہے اور مکان فروش نے اس کو قبول کیا کہ یہ مالیتی رقم بالاقساط اسے ادا کی جائے اور یہ بھی قبول کیا کہ ہم مکان کے ایک حصے پر فوراً تقسیم کر لیں۔ چنانچہ وہاں ہم نے تیج وقت نمازیں فوراً شروع کرائیں۔ اس زمانے میں سنہ ۱۴۳۱ھ کا رمضان گزر رہا تھا اور ہم نے وہاں تراویح کی نمازیں بھی شروع کرائیں اور محلے کے مسلمان بچوں کے لیے ایک مدرسہ بھی کھول دیا، جس میں آج کل سائٹھ بچے تعلیم کے لیے ذوق و شوق سے آ رہے ہیں (۲۰)۔

محمد حمید اللہ فرانس میں قائم اسلامی انجمنوں کی دینی و دعوتی سرگرمیوں کی بھی سرپرستی کیا کرتے تھے۔ وہ ان انجمنوں کے پروگراموں اور دعوتی و تربیتی اجتماعات میں بطور معلم و مرتبی ذوق و شوق سے شریک ہوتے، اپنے خطبات اور علمی گفتگوؤں سے شرکاء کے دلوں کو گرماتے، مخاطبین و سامعین کے دینی جذبہ و شوق کو انگیز کرتے (۲۱)، سوال و جواب کی نشتوں میں تشہان علم کو مختلف علمی و فقہی مسائل کے بارے میں رہنمائی کا سامان بھم پہنچاتے۔ سب سے اہم یہ کہ وہ دینداری اور اعلیٰ اسلامی اخلاق کا نمونہ پیش کر کے انہیں اسلامی تعلیمات کی پیروی کی ترغیب و تشویق دلاتے۔ رمضان المبارک اور ربیع الاول کے مہینوں کی مناسبت سے منعقدہ تقریبات میں ان [محمد حمید اللہ] کے خطبات خاص و عام سب کے لیے یکساں کشش و دلچسپی کا باعث ہوتے (۲۲)۔

محمد حمید اللہ نو مسلموں (مرد و زن) کی دینی تعلیم و تربیت کا تو خصوصی طور سے اہتمام کیا کرتے تھے۔ انہیں اسلام کی بنیادی تعلیمات ذہن نشین کرنے کے ساتھ ساتھ بسا اوقات ناظرہ قرآن تک خود پڑھایا کرتے تھے (۲۳)۔ وہ ان سے مستقل و متواتر ربط و ضبط رکھتے تھے۔ انہیں مطالعہ اسلام کی ترغیب دلاتے، ان کی ذہنی سطح کے مطابق نہ صرف یہ کہ مناسب کتب کا انتخاب بلکہ یہرون ملک سے ان کتب کی فراہمی کا انتظام بھی کرتے تھے (۲۴)۔ نو مسلموں کی تعلیم و تربیت سے انہیں اس قدر شفف اور انہاک تھا کہ اس میں خلل انہیں گوارا نہ تھا۔ چنانچہ اکثر و بیشتر وہ باہر کے ممالک سے (مختلف جامعات اور دیگر اداروں کی طرف سے) علمی مذاکرات (سینیاروں) اور کانفرنسوں میں شرکت یا پھر

تو سیعی خطبات کی دعوت قبول کرنے سے مغذرت کر لیا کرتے تھے (۶۵)۔ نومسلم (الخصوص اعلیٰ تعلیم یافتہ) حضرات دینی رہنمائی کی لیے اکثر و پیشتر انہی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ ان کے ذہنوں میں ابھرنے والے اشکالات کا تشقی بخش طور سے مدوا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کا ان نو مسلموں سے حسن سلوک، ان کے ساتھ ہمدردانہ و خیر خواہانہ روایہ اور ان کے مسائل میں دلچسپی، ان کے دلوں کو "اسلام" پر جمانے کا ایک ذریعہ تھا۔

بلاشبہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کا شمار دنیاۓ اسلام کی ان اولوւ العزم اور عظیم المرتبت شخصیتوں میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے تاریخ کے بحرانی ادوار (الخصوص کہ جب اسلام کو بطور دین معاصر تہذیبوں اور نظام ہائے افکار کی طرف سے نتئے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا) میں دین کی نصرت و تائید کا قابل قدر کارنامہ انجام دیا، اور جن کی مساعی جیلہ کے سبب سے متزلزل دلوں کو اسلام پر نئے ایمان و یقین کی دولت نصیب ہوئی۔ اسلام کے اس صادق و مخلص داعی نے پچاس سالہ برس میں جو علمی اور تبلیغی خدمات انجام دیں وہ اپنی ہمہ گیری اور اثر و نفوذ کے اعتبار سے عجائب میں سے معلوم ہوتی ہیں۔ مادی وسائل کی قلت اور کسی قسم کی حکومتی سرپرستی کے بغیر انہوں نے تن تھا وہ کارنامہ انجام دیا جس کی نظیر جدید اسلامی تاریخ میں مشکل سے مل سکے گی۔

ڈاکٹر محمد حمید اللہ، جنہیں بجا طور سے فن سیرت نگاری کا مجذد اور امام قرار دیا گیا ہے (۶۶)، فی الحقیقت میدانِ دعوت و تبلیغ دین کے بھی مجدد اور امام ہیں۔ انہوں نے غیر مسلم مغربی معاشرہ میں دعوت دین کا ایک نیا اسلوب و منہاج عطا کیا۔ یہ اسلوب مذاہب کے تقابلی مطالعہ کے طریق کو اختیار کر کے نیز اہل مغرب کی مذہبی نفیات کی رعایت کرتے ہوئے اسلام کے عقائد اور تعلیمات کی تفسیر و تشریع کا ہے۔ محمد حمید اللہ کا یہ "اسلوب دعوت و تبلیغ" جو نتیجہ خیزی کے اعتبار سے انہائی کامیاب رہا ہے، اپنے اندر غیر مسلم معاشروں میں سرگرم دعاۃ اور مبلغین کے لیے کافی رہنمائی کا سامان رکھتا ہے۔

حوالہ جات

- ۱۔ اسلام اور مغرب کے مابین تصادم اور کشمکش کے تاریخیں سیاسی اور مذہبی اسباب و محکمات اور ان کے اثرات و نتائج، بالخصوص اہل مغرب کی اسلام دینی کے جائزہ کے لیے دیکھئے:

Asad, Muhammad, Islam at the Crossroads, Lahore: Arafat

Publications (1975): 62-82.

۲۔ قرون وسطی میں مسیحی علماء کے تصور اسلام کے لئے دیکھئے:

Southern, R.W., *Western Views of Islam in the Middle Ages*, Cambridge (USA) and London: Harvard University Press, 1978.

۳۔ ندوی سید ابو الحسن علی، ”تینی دنیا (امریکہ) میں صاف صاف باتیں“ کراچی: مجلس نشریات اسلام (س۔ن) ص ۶۱

۴۔ اس سلسلہ میں برصغیر پاک و ہند میں برتاؤ، شمالی افریقہ کے ممالک، مرکز، ٹیونس اور الجزاير میں فرانسیسی جگہ لیبیا میں اطالوی استعمار کا کردار بطور خاص قبل ذکر ہے۔ دیکھئے: منگلوری، سید طفیل احمد، ”مسلمانوں کا روش مستقبل“، لاہور مکتبہ محمودیہ (۲۰۰۱ء) ص ۱۲۱-۱۲۹، بجواہ عدیدہ

Hardy, P., *The Muslims of British India*, London & N. York: Camb. Uni. Press, (1972); Gordon, David C., *The Passing of French Algeria*, London: Oxford University Press, 1966; Asad, Muhammad, *The Road to Mecca*, Lahore: Islamic Book Service (1981): 323-336;

۵۔ ”استرات“ کے سیاسی، مذہبی اور تہذیبی اہداف و مقاصد نیز اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں مستشرقین مسیحی مؤلفین کی تحقیقات کے لئے دیکھئے:

Vitkus, Daniel J., "Early Modern Orientalism, in Western Views of Islam in Medieval and Early Modern Europe, (Eds): Michael Frassetto, and David R. Blanks, London: Hampshire (1999): 207-230; Said, Edward, *Orientalism*, London, 1978; Hourani, Albert, *Islam in European Thought*, Cambridge: Camb. Univ. Press, 1991; Rodinson, Maxime, "The Western Image and Western Studies of Islam, in *The Legacy of Islam*, (Eds.). Joseph Schacht and C.E. Bosworth, Oxford & N. York: Oxford Univ. Press, (1979): 9-62; Rodinson, Maxime, "A Critical Survey of Modern Studies on Muhammad", in *Studies on Islam*, (Tr. and Ed.), Merlin L. Swartz, New Yourk & Oxford: Oxford Univ. Press, (1981): 23-85; Guenther, Alan M., "The Image of the Prophet as Found in Missionary Writings of the Late Nineteenth Century" in *The Muslim World*, 90: 1,2 (2000): 43-70; Stubbe, Henery, "The Character of Mahomet and Fablous Inventions of the Christians Concerning Him and His Character", in *Islamic Literature*, IX: 8,9 (Aug.-Sep. 1957): 105-115;

Bauben, Jabal Muhammad, "Prophet Muhammad in the West: A Study of Muir, Margoliouth, and Watt". Leicester: The Islamic Foundation, 1996; Khalaf, Samir, "Protestant Images of Islam: Disparaging Stereotypes Reconfirmed", in Islam and Christian-Muslim Relations, 8:2 (1997): 211-229; Smith, Jane I. "Christian Missionary Views of Islam in the 19th- 20th Centuries", in Zafar Ishaq Ansari and John L. Esposito (Eds.), Muslims and the West: Encounter and Dialogue, Islamabad, (2001).

۶۔ عدوی، سید ابوالحسن علی، "مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کنگشن" کراچی: مجلس نشریات اسلام (۱۸۹۱)

ص ۲۶۲-۲۵۵

۷۔ اس سلسلہ میں برصغیر پاک و ہند میں مولانا عبدالرشید گنگوہی، محمد قاسم نانوتوی اور ان کے پیروکاروں الجزاں میں امیر عبدالقادر الجزاںی اور لیبیا (البرقة و طرابلس الغرب) میں سنوی تحریک کی جدوجہد کو بطور مثال پیش کیا جا سکتا ہے۔ مؤخر الذکر کے لیے دیکھئے:

Ghazi, Mahmood Ahmad, The Sanusiyyah Movement, Islamabad: Shari'ah Academy, (2001).

۸۔ اس گروہ کے سرخیل جیش سید امیر علی تھے۔ ان کی تفہیف The Life and Teachings of Mohammad (اشاعت اول ۱۹۱۸ء) جو بعد میں The Spirit of Islam کے نام سے ۱۹۲۲ء میں لندن سے شائع ہوئی، قابل ذکر ہے۔ کسی مسلمان دانشگاہ کی طرف سے کسی مغربی زبان میں ایک انتہائی اعلیٰ علمی و ادبی اسلوب میں لکھی گئی پہلی کتاب ہے۔ اس کتاب کو اعلیٰ علمی حقوقوں میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔

۹۔ دیکھئے:

Poston, Larry, Islamic Da'wah in the West, N. York: Oxford Univ. Press (1992), and "Becoming a Muslim in the Christian West: A Profile of Conversion to a Minority Religion", in Journal of the Muslim Minority Affairs, XII:I (Jan. 1991): 159-69; Ezzati, Abul-Fazl, An Introduction to the History of the Spread of Islam, London: News & Media (1978).

۱۰۔ دیکھئے:

Hofmann, Murad Wilfried, Review of "Struggling to Surrender- Some Impressions of an American Convert to Islam" by Jeffrey Lang, (Maryland USA, 1994), In Islamic Studies, 36:4 (1997): 682.

- ۱۱۔ ہوف میں مراد ولفرانڈ: "خطبات بیاد خرم مراد" مرتبہ و مترجمہ سید راشد بخاری، درسہ ماہی "مغرب اور اسلام" "اشاعت خاص بسلسلہ بیاد خرم مراد"، ج ۲، ش ۲۳-۲۴ (جولائی۔ دسمبر ۲۰۰۰ء) ص ۳۶-۹۱۔ فاضل مقرر نے ایک اور جگہ بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ دیکھئے: "مستقبل اسلام کے سامنے میں" مترجم و مرتب (ن-م) نئی وہی: مرکزی مکتبہ اسلامی (۲۰۰۰ء) ص ۳۲۔
- ۱۲۔ "مستقبل اسلام کے سامنے میں" ص ۳۲۔
- ۱۳۔ علامہ محمد اسد کے احوال و آثار تصانیف و تالیفات اور ان کی دعویٰ اہمیت کے جائزہ کے لیے دیکھئے:
- Hofmann, Wilfried Murad, *The Diary of a German Muslim*, Koln: IB Verlag Islamische Bibliothek (1987): 41-43, 50-52, 152-153, and "Muhammad Asad: Europe's Gift to Islam", in *Islamic Studies Op. Cit.*, PP. 233-248; Nawwab, Ismail Ibrahim, "A Matter of Love: Muhammad Asad and Islam", In *Islamic Studies*, 39:2 (2000): 155-232.
- ۱۴۔ ڈاکٹر محمد حیدر اللہ کے سوانح اور ان کی علمی و تصنیفی سرگرمیوں کے لیے دیکھئے: حیدر اللہ، محمد، "چھپیں سال پہلے کی باتیں" در مجلہ "روح ترقی" (حیدر آباد۔ دکن) (رمضان و شوال ۱۴۲۷ھ)، ص ۳۰-۳۲؛ قاسمی، محمد سعید عالم، "ڈاکٹر محمد حیدر اللہ اور اسلامی علوم کی تحقیق و تدوین" در "تحقیقات اسلامی" (علی گڑھ) ج ۲۲، ش ۱ (جنوری۔ مارچ ۲۰۰۳ء)، ص ۹۶-۱۱۲؛ مومن، پروفیسر عبدالرحمن، "ڈاکٹر محمد حیدر اللہ" در "المہماز" (الہند) ج ۱۲، ش ۱ (مئی۔ جون، جولائی ۲۰۰۳ء)، ص ۵۷-۶۹؛ ندوی، سید ابو الحسن علی، "اسلامیات اور مغربی مستشرقین و مسلمان مصنفوں"؛ کراچی: مجلس نشریات اسلام (۱۹۲۲) ص ۳۲-۳۵؛ خورشید احمد، پروفیسر، "ڈاکٹر محمد حیدر اللہ" در "ترجمان القرآن"، ج ۱۲۰، عدد ۱ (جنوری ۲۰۰۳ء) ص ۸۳-۹۰؛ بلیغ الدین، شاہ، "تذکرہ عثمانیں" کراچی: اردو اکیڈمی سندھ (۲۰۰۱)، ص ۲۱-۲۳؛ غازی، محمود احمد، "لقدیم" (عبد نبوی کے میدان جنگ از ڈاکٹر محمد حیدر اللہ) راولپنڈی: الہدی بجلی کیشنر (۱۹۹۸)، ص ۱۵-۹؛ وہی مصنف، "خطبات بہاولپور (۲)" بہاولپور: اسلامیہ یونیورسٹی (۱۹۹۷ء)، ص ۱۲۵-۱۳۵؛ وہی مصنف، "ڈاکٹر محمد حیدر اللہ۔ بیسویں صدی کے ممتاز ترین محقق" در "دعاۃ" (اسلام آباد) ج ۹، ش ۱۰ (مارچ ۲۰۰۳ء)؛ خالد علوی، "ڈاکٹر محمد حیدر اللہ کی خدمت حدیث" در "دعاۃ" ج ۹، ش ۱۰ (مارچ ۲۰۰۳ء)، ص ۳۸-۳۸؛ ندوی، سید رضوان علی، "تحقیقات و تاثرات" کراچی: ادارہ علم و فن (۲۰۰۰ء)، ص ۵۰۰-۵۱۲؛ احمد، حسن الدین، "جلاؤطن" در "محفل۔ سوانحی مضامین کا مجموعہ" از حسن الدین احمد، حیدر آباد (دکن)؛ ولا اکیڈمی (۱۹۸۲)، ص ۲۸-۵۳۔ انگریزی کتب و مقالات کے لیے دیکھئے:

Binder, Leonard, *Religion and Politics in Pakistan*, Berkeley and Los Angeles: Univ. of California Press (1963); Ahmed, Manzoorurddin, Pakistan: The Emerging Islamic State, Karachi: The Allies Book Corporation, (1966); 91; Kademoglu, Mahmud Rifat, "Remembering

Muhammad Hamidullah", in Islam & Science, 1:1 (June 2003) : 143-152; Ansari, Zafar Ishaq, Dr. Hamidullah: Great Encounters --- Karachi, Paris and Dahran, in Impact, 33: 1-3 (January- March 2003): 24-27); Kavakci, Dr. Yusuf Zia, "The Debt We Owe in Turkey: Quietly an Intellectual Liberation" in Impact International, 33:1-3 (Jan-March 2003): 34-36.

۱۵۔ "مسلم ممالک میں اسلامیات اور مغربیت کی کلکش" ص ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۲۔ مزید دیکھئے: وہی مصنف، "اسلامیات اور مغربی مستشرقین و مسلمان مصنفین" کراچی: مجلس نشریات اسلام (۱۹۹۲ء)، ص ۱۲-۱۳۔ مستشرقین کے مدعای اور طریق کار پر ڈاکٹر محمد رفیع الدین مرحوم نے انہائی مختصر لیکن بہت عمدہ بحث کی ہے۔ دیکھئے: محمد رفیع الدین، "اسلامی تحقیق کا مدعای، مفہوم، طریقہ" در "ساحل" (کراچی) ج ۱۲، ش ۵ (مسی ۲۰۰۰ء): ص ۶-۹۔

۱۶۔ مسلم ممالک میں اسلامیات اور مغربیت کی کلکش، ص ۲۶۰؛ اسلامیات اور مغربی مستشرقین و مسلمان مصنفین ص ۱۸-۱۹۔

۱۷۔ مسلم ممالک میں اسلامیات اور مغربیت کی کلکش، ص ۲۶۷، ۲۶۸۔ اسلامیات اور مغربی مستشرقین ص ۱۸-۲۰۔

۱۸۔ الف۔ اسلامیات و مغربی مستشرقین و مسلمان مصنفین، ص ۲۳۔

۱۸۔ ب۔ دیکھئے:

Ataullah, Sadida, "Confessions and Conversations" in Impact, 33:1-3 (Jan-March 2003): 37.

۱۹۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے "حدیث نبوی کی تدوین و حفاظت" کے نام سے 'صحیفہ حام بن متبہ' مطبوعہ کراچی (اکیڈمی آف لائف اینڈ لیزز، س-ن) کے آغاز (ص ۵-۵۷) میں ایک بسیروں مقدمہ تحریر کیا ہے۔ اس مقدمہ میں انہوں نے بغیر کسی انقطعان کے تدوین و حفاظت احادیث و سنن کو تو یہ دلائل سے ثابت کیا ہے۔ محمد حمید اللہ کی اس کاوش کے جائزہ کے لیے دیکھئے: خالد علوی، "ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی خدمت حدیث" در "دعوه" (اسلام آباد) ج ۹، ش ۱۰، (ماрچ ۲۰۰۳ء) ص ۳۸-۳۹۔

۲۰۔ پاکستان میں "صحیفہ حام بن متبہ" انگریزی (از قلم پروفیسر رحیم الدین) اور اردو (از محمد حبیب اللہ برادر ڈاکٹر محمد حمید اللہ) ترجمہ کے ساتھ متعدد اداروں کی طرف سے شائع ہوا ہے۔ کراچی میں اکیڈمی آف لائف اینڈ لیزز نے الگ الگ سے اردو اور انگریزی ترجمہ کے ساتھ جبکہ زمزمه پبلیشورز نے اسے اردو ترجمہ کے ساتھ شائع کیا ہے۔ فیصل آباد (ملک سزر، ۱۹۸۳ء) سے بھی اس کی اشاعت ہوئی ہے۔

۲۱۔ اس موضوع پر محمد مصطفیٰ عظیٰ کی حسب ذیل دو تصاویف کو بڑی شہرت حاصل ہوئی ہے۔

Indianapolis (1978). reper. Lahore: Suhail Academy (2001); Studies in Hadith Methodology and Literature, Lahore: Suhail Academy, (2002).

اول الذکر کا عربی ترجمہ خود مصنف کے قلم سے ”دراسات فی الحدیث العبوبی و تاریخ تدوینیة“ کے نام سے الیاض سے طبع (۱۹۷۶ء) ہو چکا ہے۔

۲۲- سیرت النبی ﷺ کے موضوع پر محمد حمید اللہ نے اردو اگریزی، فرانسیسی اور جرمن میں سینکڑوں مقالات اور درجہنوں کتب تصنیف کی ہیں۔ ان میں سے حسب ذیل کتب کو بہت زیادہ قبولیت و شہرت حاصل ہوئی ہے اور متعدد اداروں کی طرف سے کئی کئی بار طبع ہو چکی ہیں: ”عہد نبوی میں نظام حکمرانی“، طبع ٹالٹ، کراچی: اردو اکیڈمی سندھ (۱۹۸۱ء)، ”رسول اکرم ﷺ کی سیاسی زندگی“ اشاعت ششم، کراچی: دارالاشعات (۱۹۸۳ء)، ”عہد نبوی ﷺ کے میدان جنگ“ لاہور: ادارہ اسلامیات (۱۹۸۲ء)، Muhammad Rasulullah، لاہور: شیخ محمد اشرف، اسلامیات (س۔ ن)، The First Written Constitution in the World، لاہور: شیخ محمد اشرف، تیری اشاعت (۱۹۷۵ء)، Le Prophète de l'Islam Sa Vie et Son Oeuvre، (پیغمبر اسلام-حیات اور کارنامے) ۲ جلدیں میں پیرس سے (اشاعت چہارم ۱۹۷۹ء) شائع ہوئی ہے۔ اس تصنیف کو محمد حمید اللہ کا علیٰ شاہکار (magnum opus) کہا جاتا ہے۔ اس کی جلد اول کا اگریزی ترجمہ ڈاکٹر محمود احمد غازی کے قلم سے ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد نے The Life and Work of the Prophet of Islam کے عنوان سے شائع (۱۹۹۸ء) کیا ہے۔

۲۳- سیرت نگاری کے میدان میں محمد حمید اللہ کی انفرادیت اور امتیازی شان کے بارے میں محمود احمد غازی رقطراز ہیں: ”ڈاکٹر محمد حمید اللہ کو دور جدید کا امام سیرت بلکہ مجدد علوم سیرت کہنا بے جا نہ ہو گا۔ سیرت پر آپ کا تحقیقی کام اپنے انداز کا ایک منفرد کام ہے۔ آپ نے گزشتہ سانچہ سال کے دوران سیرت سے متعلق موضوعات پر جو تحقیق کی ہے وہ اپنی وسعت اور تعمق، گہرائی اور گیرائی اور کیفیت کے اعتبار سے تاریخ ادبیات سیرت میں ایک نئے اسلوب بلکہ ایک نئے دور اور ایک نئے عہد کے آغاز اور ارقاء کی غماز ہے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے سیرت رسول ﷺ (علیٰ صاحبها صلاۃ و تھیۃ) کے جن پہلوؤں کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا ہے وہ اپنے تنوع، جدت اور انفرادیت میں ایک عجیب امتیازی شان رکھتے ہیں۔ آپ نے ایسے بہت سے سوالات اٹھائے جن کا جواب سیرت کی عام کتابوں کا تو ذکر کیا امہات میں بھی نہیں ملتا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے اپنی مخلصانہ تحقیق اور مجددانہ بصیرت سے ایسے بہت سے لائل عقدے حل کیے اور تلامذہ سیرت کو نئی نئی روشنیاں عطا کیں“ دیکھئے: ”محمود احمد غازی، ”تقییم“ (عہد نبوی کے میدان جنگ“ از محمد حمید اللہ) راولپنڈی: الہمی پبلی کیشن (۱۹۹۸ء)، ص ۱۳۔ سیرت نگاری میں محمد حمید اللہ کی انفرادیت اور مجدهانہ اسلوب کے جائزہ کے لیے مزید دیکھئے: محمود احمد غازی، ”ڈاکٹر محمد حمید اللہ۔ بیسویں صدی کے ممتاز ترین محقق“، در ”دعاۃ“ (اسلام آباد) ج، ۹، ش، ۱۰، (مارچ ۱۹۹۸ء): ص ۲۰۰۳۔ ۳۵۔

۲۴- دیکھئے: محمد حمید اللہ، ”امام ابو حنیفہ کی تدوین قانون اسلامی“، کراچی: اردو اکیڈمی سندھ (۱۹۸۳ء):

ص - ۵۲-۶۷

۲۵۔ دیکھئے: "امام ابوحنیفہ کی تدوین قانون اسلامی" ، ص ۱۶-۵۲

۲۶۔ اسلام کے قانون بین الامالک پر ان کا جامع ترین علمی کام The Muslim Conduct of State کی تصنیف و تالیف ہے۔ اس کا پہلا ایڈیشن ۱۹۷۲ء میں حیدر آباد دکن سے ، دوسرا نظر ثانی شدہ لاہور (شیخ محمد اشرف) سے ۱۹۷۵ء میں نکلا۔ اب تک اس کے سات ایڈیشن تکل پچھے ہیں اور درجنوں زبانوں میں اس کے ترجم بھی ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے ان (محمد حمید اللہ) کا ایک اہم علمی کام اسلام کے قانون بین الامالک پر امام محمد الشیعی (۱۳۲-۱۸۶ھ) کی تصنیف "كتاب المسير الكبير" پٹش اللہ محمد بن احمد بن علی بن ابی کلہ السنی (م ۵۹۰ / ۱۰۹۷ھ) کی شرح جو "شرح كتاب المسير الكبير" کے نام سے معروف ہے، کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ ہے۔ چار جلدیوں پر مشتمل یہ ترجمہ انقرہ (ترکی) سے شائع ہو چکا ہے۔

اسلام کے قانون بین الامالک کی تدوین نو کے سلسلہ میں محمد حمید اللہ کی کاوشوں کے جائزہ کے لیے دیکھئے: غازی، محمود احمد: "خطبات بہاولپور (۲)" (اسلام کا قانون بین الامالک) بہاولپور: اسلامیہ یونیورسٹی (۱۹۹۱ء) ص ۱۳۲-۱۳۵۔ مزید دیکھئے: "ڈاکٹر محمد حمید اللہ۔ بیسویں صدی کے متاز ترین محقق" ، ص ۲۸ - ۳۰۔

۲۷۔ (بطور مثال) مستشرق R. Bell کی کتاب "Introduction to the Quran" (ایمپیریا یونیورسٹی پرنس

(۱۹۵۳ء)، پر ڈاکٹر صاحب کے "نقد و تبصرہ" کے لئے دیکھئے:

Hamidullah, Muhammad, A Review of R. Bell's "Introduction to the Qur'an" in "The Islamic Quarterly", 1:3 (Oct. 1954): 239-243;

عراتی عیسائی مؤلف مجید خدوری کی تصنیف "Islamic Law of Nations" (بائی مور: ۱۹۶۶ء) پر تبصرہ و ملاحظات کے لئے دیکھئے:

Hamidullah, Muhammad, A Review of Professor Majid Khadduri's "Islamic Law of Nations (Shaybani's Siyar)" in The Islamic Review, 54:

7-8 (1966): 32-35

۲۸۔ مسلمان مستشرق کی اصطلاح غالب اس سے پہلے ڈاکٹر محمد رفیع الدین نے استعمال کی۔ دیکھئے: ، رفیع الدین، محمد "اسلامی تحقیق کا مدعا، مفہوم" [اور] طریقہ، ص ۹-۱۰؛

۲۹۔ خورشید احمد، پروفیسر، "ڈاکٹر محمد حمید اللہ" ، ص ۸۵۔

۳۰۔ اس کتاب کا فرانسیسی، جرمن اور اطالوی کے علاوہ بیسویں زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ فرانس میں یہ درجنوں بار اسلامی ثقافتی مرکز (Centre Culturel Islamique) اور پاکستان میں شیخ محمد اشرف (لاہور) کی طرف سے اس کی اشاعت ہوئی ہے۔

۳۱۔ یہ کتاب، شکاگو (امریکہ) اور لاہور سے قاضی پبلی کیشنز کی طرف سے شائع ہوئی ہے۔

۳۲۔ دیکھئے: مصنف اس کتاب کے دیباچہ میں رقمطراز ہیں:

"Let Christians not neglect that of all the religions in the world, Islam is the only one which confirms them in their basic dogma that Jesus Christ- God bless him- was born of a pious virgin without a father. Islam is not an enemy, but a friend, an ally of the Christians in the face of the whole world. Many non-Muslims, particularly Christians are searching for a small book to begin their study of Islam in general. Many have already been produced. Another in diffidently presented herewith. The Fittest will survive. It is a labour of love, for the sake of God Almighty. For a more comprehensive reading, one may indicate the "Introduction to Islam"; Hamidullah, Muhammad, Islam: A General Picture. Lahore: Kazi Publications (nd.) : 2-3.

۳۲۔ فرانسیسی کامل ترجمہ حوالی پہلی بار ۱۹۵۹ء میں پیرس میں چھپا جس کا تیرھواں ایڈیشن ۱۹۸۵ء میں نکلا (دیکھئے: محمد حیدر اللہ "عرض حال" (مقدمہ "تفسیر جبیبی" از محمد حبیب اللہ" حیدر آباد دکن۔ (س۔ن۔) اب تک اس کے میں سے زائد ایڈیشن نکل چکے ہیں۔

۳۳۔ محمد حیدر اللہ جرمن میں ترجمہ قرآن کے سلسلہ میں مظہر متاز قریشی کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں: "میرا جرمن ترجمہ قرآن سورہ انعام تک جو آ کر رکا تو پھر آگے نہیں بڑھا دوسرے کاموں میں اس قدر پھنسا ہوا ہوں کہ ادھر توجہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔" (محمد حیدر اللہ بنام مظہر متاز قریشی۔ در "ارمغان" (کراچی) ش، ۲، ۵ (جولائی - دسمبر ۱۹۹۱ء)، ص ۷۷۔ ۸۹۔ یہ ترجمہ ڈاکٹر صاحب کے غیر مطبوعہ علمی سرمایہ میں شامل ہے۔

۳۴۔ محمد حیدر اللہ "عرض حال" مقدمہ "تفسیر جبیبی" ص ۱۵۵۔

۳۶۔ محمد حیدر اللہ نے "القرآن فی كل لسان" کے نام سے ایک "کتابیات" (bibliography) مرتب کرنا شروع کی تھی کہ دنیا کی کس زبان میں قرآن مجید کے ترجمے کس کس نے اور کب کب کیے ہیں اور بطور نمونہ ہر زبان میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی اس میں شامل کیا گیا۔ اس کا پہلا ایڈیشن ۱۳۶۲ھ میں چھپا جس میں تینیں (۲۳) زبانوں کا مواد تھا۔ دوسرا ۱۳۶۵ھ میں تینتالیس (۳۳) زبانوں کے مواد کے ساتھ اور تیسرا ۱۳۶۶ھ میں ۶۷ زبانوں کے مواد کے ساتھ چھپا۔ تینوں ایڈیشن عالمگیر تحریک قرآن مجید حیدر آباد (دکن) کی طرف سے شائع ہوئے۔ ۱۳۶۱ھ تک مؤلف کے پاس تقریباً سوا سو زبانوں کا مواد جمع ہو چکا تھا جو مالی وسائل کی قلت کے سب کتابی صورت میں بجا شائع نہ کیا جا سکا تاہم یہ بہ لحاظ حروف تھیں پیرس کے ماہنامہ "فرانس اسلام" میں بذریع شائع ہوتا رہا۔ دیکھئے: محمد حیدر اللہ "عرض حال" (مقدمہ "تفسیر جبیبی" از محمد حبیب اللہ) ص ۱۵۳۔ ان میں بہت سے اہم ترجم ایسے تھے جو ڈاکٹر صاحب نے دوستوں کی مدد سے خود کرائے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کے بعض خطوط سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس ڈیڑھ دو سو زبانوں میں سورہ فاتحہ کے ترجمے جمع ہو چکے تھے لیکن

افوں کہ ان ترجم کا مجموعہ ان کے ہاں سے گم ہو گیا (شاید چوری ہو گیا)۔ دیکھئے: محمد حمید اللہ، خطوط بناں

مظہر متاز قریشی در ”ارمغان“ (کراچی) ش ۵ (جولائی۔ دسمبر ۱۹۹۶ء) ص ۹۵-۹۶۔

۳۷۔ ڈاکٹر صاحب مظہر متاز قریشی کے نام رقطراز ہیں: ”جرمن ترجمہ قرآن کی جگہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی کی ”ججۃ اللہ البالغ“ کے فرانسیسی ترجمے کو مقدم رکھنا چاہتا ہوں جو ۲/۱ (ایک چوتھائی) مکمل ہو چکا ہے (”ارمغان“ ص ۱۱۳)۔ ایک دوسرے خط میں لکھتے ہیں: ”ججۃ اللہ البالغ“ کے چار سو (۴۰۰) صفحوں کا ترجمہ ہو چکا ہے ابھی دو تہائی کام باقی ہے۔ چار داگنگ عالم سے اتنے خط آتے ہیں کہ اپنے علمی کام کے لیے وقت نہیں پاتا (”ارمغان“ ص ۱۲۳)۔ ججۃ اللہ البالغ کا فرانسیسی ترجمہ تا حال زیور طباعت سے آراستہ نہیں ہو سکا ہے۔

۳۸۔ محمد حمید اللہ اس کتاب کے متعلق رقطراز ہیں: ”اس ناجیز پر ایک نیا فریضہ لگایا گیا ہے یہاں ایک ناشر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک کتاب تین بابوں میں شائع کرنا چاہتا ہے۔ ایک یہودی معلومات دوسرا عیسائی معلومات اور تیسرا اسلامی معلومات [پر مشتمل ہو گا] ہر باب ۵۰ صفحوں میں ہوگا۔ اللہ مد فرمائے گا۔ اتنی طویل معلومات کا ملتا آسان نہیں۔“ (یہاں مظہر متاز قریشی در ”ارمغان“ ص ۱۲۳)۔ ایک دوسرے خط میں لکھتے ہیں ”میں نے حضرت ابراہیم پر مقالہ لکھا ہے مگر ناشرست ہے“ (”ارمغان“ ص ۱۳۲)۔

۳۹۔ مصنف مظہر متاز قریشی کے نام رقطراز ہیں: ”ایک یا کام سر لیا ہے جبکہ پرانے کام ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک منحصر و اخیر عربی جس میں عیسائی فرقوں کے بے شمار اختلافی بیانات اور قرآن مجید کے بیانات کا مقابلہ ہو“ (”ارمغان“ ص ۱۲۲)۔

۴۰۔ یہ خط ڈاکٹر تحسین فراتی نے اپنے مقالہ ”مرد آفاقتی“ مشمولہ ”اوری اینٹل کالج میگزین“ (عدد خاص بیاد ڈاکٹر محمد حمید اللہ) ج: ۲۷، ش: ۲۳-۲۴، ص ۸۱-۸۲، میں نقل کیا ہے۔

۴۱۔ سلووق، ڈاکٹر عفان۔ ”ڈاکٹر محمد حمید اللہ۔ چند یادیں، کچھ باتیں“، در ”محلہ عثمانی“ ج ۲، ش ۲ (اپریل۔ جون ۱۹۹۹ء) ص ۵۰-۵۱۔

۴۲۔ دیکھئے: نومن، ڈاکٹر عبدالرحمن۔ ”ڈاکٹر محمد حمید اللہ“ در ”المائز“ (الہبند) ج ۱۲، ش ۱ (مئی جون جولائی ۲۰۰۳ء)، ص ۲۵۔ ”ڈاکٹر محمد حمید اللہ۔ کچھ یادیں، کچھ باتیں“، ص ۵۱۔

۴۳۔ محمد حمید اللہ مظہر متاز قریشی کے نام خطوط میں رقطراز ہیں: ”میں نے ریونیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لکھر اس لیے دیے کہ وہاں پر مشتری سرگردی بہت شدید ہو گئی ہے ریونیوں سے واپسی پر پاریس میں بھی وہی کچھ ہوا [حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لکھا]“ (”ارمغان“ ص ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۵)۔ میں نے سفر نامہ جزیرہ ریونیوں (جنوبی افریقہ) نہیں لکھا۔ ریونیوں میں جامع مسجد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات پر بھی ایک لکھر کرایا گیا۔“ (”ارمغان“ ص ۱۳۵)

۴۴۔ خورشید احمد، ”ڈاکٹر محمد حمید اللہ“، ص ۸۹۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے مغرب میں اسلام کے پیغام کی اشاعت میں جو کردار ادا کیا ہے اس کے بارے میں عمر بن عبد اللہ کا یہ کہنا میں برحقیقت معلوم ہوتا ہے کہ:

”Dr. Muhammad Hamidullah enjoyed a unique stature in introducing

Islam to the West and in fact bringing westerners closer to an objective view of the faith [Islam] and its peoples [Muslims]"'

Abdullah, Omer bin, "Dr. Muhammad Hamidullah: A Lifetime Service to Islamic Scholarship." in *Islamic Horizons*, (July- August 1999): 23-25.

۲۵۔ مؤمن عبد الرحمن، "ڈاکٹر محمد حمید اللہ"، ص ۲۵۔ (عبد الرحمن مؤمن جو کہ بھی یونیورسٹی میں استاد ہیں کو پیرس میں متعدد بار ڈاکٹر محمد حمید اللہ سے ملاقاتوں کا موقع میر آیا۔ ان کا یہ مقالہ ذاتی مشاہدات پر مبنی ہے)۔ فرانس میں ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں قول اسلام کرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں بیان کی جاتی ہے۔ اس بارے میں کوئی قطعی اور حقیقی بات کہنا آسان نہیں۔ تاہم خود ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے بعض بیانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایسے افراد کی تعداد سیٹکروں میں بہر حال ضرور رہی ہے۔ دیکھئے: مرزا، پروفیسر محمد منور، "ڈاکٹر محمد حمید اللہ..... اخلاق حسن کا پرتو..... جہد و ایثار کی مثال" در روزنامہ "نواب و وقت" (لاہور) (۲۰ اپریل ۱۹۹۲ء)۔ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں مشرف بہ اسلام ہونے والوں میں بہت سے اعلیٰ تعلیم یافت لوگ (مرد و زن) ڈاکٹر، انجینئر، معلمین، ماہرین طبی و سائنسی علوم اور فلسفی حضرات شامل تھے۔ ڈاکٹر صاحب اور ان کی فکر سے متاثرین اہل علم و دانش کے باعث جن لوگوں کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی ان کی تعداد یقینی طور پر ہزاروں میں ہو سکتی ہے۔

۲۶۔ ڈاکٹر عفان سلووق جنہیں پیرس میں ڈاکٹر محمد حمید اللہ سے ملاقاتوں کے علاوہ ان کی علمی اور دعویٰ و تبلیغی سرگرمیوں کا قریب سے مشاہدہ کا موقع ملا، ڈاکٹر صاحب کے طریق تبلیغ کے متعلق لکھتے ہیں:

"پیرس میں ڈاکٹر صاحب تحقیق و تصنیف کے ساتھ ساتھ اسلام کی نشر و اشاعت اور ترویج کے لیے سرگرمی سے مصروف عمل رہتے تھے۔ مگر ان کا انداز رواتی نہیں تھا۔ انہوں نے مغرب میں اسلام پیش کرنے کے لیے دلائل اور تقابلی مطالعے کا سہارا لیا۔ چنانچہ اس ضمن میں اکثر سائنسی تفہیموں اور شفافی اداروں کی دعوت پر کچھ دینے جاتے اور اسلام پر کسی جانے والی تقدیم کا مدل جواب دیتے اور حاضرین کو اس [اسلام] کی حقانیت اور صداقت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتے۔ دیکھئے: "ڈاکٹر عفان سلووق، ڈاکٹر محمد حمید اللہ۔ کچھ یادیں، کچھ باشیں" در "محلہ عثمانیہ" ج ۲ ش ۲ (اپریل - جون ۱۹۹۷ء)، ص ۵۰۔

۲۷۔ مؤمن، پروفیسر عبد الرحمن، "مرحوم ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے ساتھ ایک گفتگو" در "معارف" (اعظم گڑھ)، ج ۱۷، ش ۶ (جون ۲۰۰۳ء)، ص ۳۶۰؛ سید رضوان علی ندوی پیرس میں محمد حمید اللہ سے اپنی ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں: "ڈاکٹر صاحب مجھے اندر [اپنے فلیٹ پر] آئے گئے وہاں ایک تقریباً چالیس سالہ فریض خاتون ڈاکٹر صاحب سے فارسی کی کوئی کتاب پڑھ رہی تھیں" دیکھئے: "ڈاکٹر محمد حمید اللہ۔ نقوش و تاثرات"، ص ۵۰۵۔

۲۸۔ اس ضمن میں ڈاکٹر صاحب کے خیالات کے لیے دیکھئے: اولیس صدیقی، "اسلام کا میں الاقوامی سفیر۔۔۔ شہر آفاق تحقیق ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے ساتھ ایک روح پرور شام کی روادا" در "اردو ڈا جسٹس" ج ۲۳، ش ۲ (فروری ۲۰۰۳ء)، ص ۲۹۔

۲۹۔ الجزائر میں داخلی کشمکش کے بارے میں حکومت فرانس اور فرانسیسی ذرائع ابلاغ کے روایہ اور اس کے فرانسیسی مسلم

کیونتی پر اثرات کے جائزہ کے لئے دیکھئے:

Messaoudi, Rashid, "Algerian-French Relations: 1830-1991", in Algeria: Revolution Revisited, (ed.) Reza Shah Kazemi, London: Islamic World Report (1997): 20-38.

- ۵۰۔ محمد حیدر اللہ بام مظہر متاز قریشی، "ارمغان" ص ۱۲۱، ۱۵۳۔
- ۵۱۔ بام مظہر متاز قریشی، "ارمغان"، ص ۱۲۹۔ ۱۵۰۔
- ۵۲۔ مؤمن، ڈاکٹر عبدالرحمن، "مرحوم ڈاکٹر محمد حیدر اللہ کے ساتھ ایک گفتگو"، در "معارف" (اعظم گزہ)، ج ۱۷، ش ۶ (جون ۲۰۰۳ء)، ص ۳۵۹۔
- ۵۳۔ مغربی ممالک میں مسلم اقليتوں کے دینی و ثقافتی مسائل کے جائزہ کے لئے دیکھئے: غازی، محمود احمد، "خطبات بہاولپور (۲)" (بابریوال خطبہ "مسلم اقیلت جدید لا دینی ریاستوں میں)، ص ۳۰۶۔ ۳۱۷۔
- ۵۴۔ احمد، ڈاکٹر عبدالقدیر، "ڈاکٹر محمد حیدر اللہ کی علم دوستی۔ چند تاثرات"، در "مجلہ عثمانی" ج ۲، ش ۲ (اپریل۔ جون ۱۹۹۷ء)، ص ۵۲۔ مقالہ نگار قانون میں الممالک کی تعلیم کے سلسلہ میں ۱۹۵۳ء سے ۱۹۹۷ء تک، پیرس میں مقیم رہے۔ مزید دیکھئے:

Beg, Muhammad Abdul Jabbar, "A Pupil's Memories", in Impact, 33:1-3 (Jan.- March 2003) : 33.

- ۵۵۔ مظہر متاز قریشی کے نام ایک خط میں رُتھرا رہا ہے: "آج کل کاموں کی اتنی کثرت ہے کہ جواب دینا بھی آسان نہیں رہا۔ یہاں ہر روز مقامی طلباء پڑھنے کے لئے آتے ہیں....." (ارمغان، ص ۱۱۱)
- ۵۶۔ دیکھئے:

Askari, M.H., "Scholar in Self-Exile" in Dawn- Tuesday Review, (Oct. 15-21, 1996): 23.

- ۵۷۔ ندوی، سید رضوان علی، "ڈاکٹر محمد حیدر اللہ - نقش و تاثرات" در "تحقیقات و تاثرات" ص ۵۰۵؛ خورشید احمد، پروفیسر، "ڈاکٹر محمد حیدر اللہ" در "ترجان القرآن" ج ۱۳۰، عدرا، (جنوری ۲۰۰۳ء) ص ۸۹۔ مزید دیکھئے:

Beg, Muhammad Abdul Jabbar, "A Pupil's Memories", Op. Cit., p. 33.

- ۵۸۔ مرتaza، محمد منور، "ڈاکٹر محمد حیدر اللہ - اخلاق حسن کا پتو۔ سجدہ و ایثار کی مثال" در روزنامہ "نوایے وقت" (لاہور) ۳۰ اپریل ۱۹۹۲ء۔
- ۵۹۔ دیکھئے:

Abdullah, Omer bin, Dr. Muhammad Hamidullah: A lifetime Service to Islamic Scholarship, in Islamic Horizons, (July- August, 1999): 25.

- ۶۰۔ صلاح الدین، محمد، "پیرس میں [ڈاکٹر محمد حیدر اللہ کی] وزیر اعظم محمد نواز شریف سے ملاقات" در "مجلہ عثمانی" ج ۲،

ش ۸، (اپریل - جون ۱۹۹۷ء): ص ۶۵۔

۶۱۔ پروفیسر خورشید احمد نے بھی اپنے مضمون میں فرانس کے مسلمان طلباء کی اسلامی تنظیم (UMSO) کے تحت منعقد ہونے والے ایک ایسے ہی تجمع (ترتبی کمپ) کا ذکر کیا ہے جس میں ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے کئی روز طلباء کے ساتھ گزارے تھے۔ اس تجمع کے دوران ڈاکٹر صاحب بھی عام طلبہ کی طرح زمین پر سوتے اور اپنے برتنا اپنے ہاتھ سے دھوتے تھے۔ ("ترجمان القرآن" ج ۱۳۰، ش ۱ (جنوری ۲۰۰۳ء): ص ۸۸۔

۶۲۔ دیکھئے: Askari, M.H., A Scholar in Self-Exile, P. 23.

۶۳۔ محمد نجات اللہ صدیقی مدیر "ترجمان القرآن" کے نام خط میں ڈاکٹر محمد حمید اللہ سے اپنی ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "پہلی ملاقات ۱۹۷۲ء کے تیرے ہفتے میں ڈاکٹر صاحب کے ہمراں والے قلیٹ میں ہوئی تھی۔ سہ پہر کا وقت تھا۔ کچھ دیر بعد ایک نو مسلم نوجوان آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ ان کو قرآن کریم (ناظرہ) پڑھاتے ہیں اور موعودہ وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ اتنا بڑا عالم اور محقق ناظرہ پڑھا رہا تھا، میری طبیعت بہت مشاہر ہوئی" دیکھئے "ترجمان القرآن"، ج ۱۳۰، ش ۲ (اپریل ۲۰۰۳ء) ص ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ مزید دیکھئے:

Ansari, Zafar Ishaq, "Great Encounters: Karachi, Paris and Dahrana", in Impact, 33:1-3 (Jan. March 2003): 26.

۶۴۔ دیکھئے: ڈاکٹر محمد حمید اللہ بنام محمد اکرم صدیقی، ناظم قاضی پہلی کیشنز، لاہور، (۲۷ جمادی الاولی ۱۴۳۰ھ؛ ۳ شعبان ۱۴۳۰ھ؛ ۲ ربیع الاول ۱۴۳۰ھ)۔

۶۵۔ دیکھئے: صلاح الدین، محمد "ڈاکٹر حمید اللہ: نام اور کام" درہفت روزہ "مکبر" (کراچی)، ج ۲۲، ش ۵۲ (۲۹ دسمبر ۲۰۰۲ء) ص ۹۔ ڈاکٹر صاحب (حکومت پاکستان کی دعوت پر) مئی ۱۹۹۲ء میں پاکستان آمد سے قبل کراچی میں میتم اپنی ایک عزیزیہ کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں: "ابھی یہ یقینی بات نہیں کہ میں پاکستان آؤں اور فرانس کی دینی مصروفیتوں کے باعث پاکستان میں زیادہ قیام ممکن نہیں" (بنام دروانہ بیگم، ۱۶ شعبان ۱۴۳۲ھ) مزید دیکھئے:

Abdullah, Omer bin, Dr. Muhammad Hamidullah: A Lifetime Service to Islamic Scholarship, p 25.

۶۶۔ غازی محمود احمد، "تقدیریم" (عبد نبوی کے میدان جگ از محمد حمید اللہ)، ص ۱۳۔
